

Ketabton.com



دلایل الخیرات (وظایف روزمره)  
برای مسلمانان عام و خاص



آخند زاده سیف الرحمن پیر ارجی خراسانی



لیسوک ملام حضرت ملام



لیسوک حاجب ملام

دلایل الخیرات (وظایف روزمره)  
برای مسلمانان عام و خاص



آخند زاده سیف الرحمن پیر ارجی خراسانی



لیسوک ملام حضرت ملام

لیسوک حاجب ملام

رَعِيَايَ سِيِّدِي بِرَفْعِ يَدِي عَائِسَةَ  
 جبل خوب حضرت ابو بکرؓ ته نو راته نه او فرمائیل چه اے عائشہؓ ضرور  
 لَيْدُ فَنَنْ فِي بَيْتِكَ ثَلَاثَةَ هُمْ خَيْرٌ أَهْلٍ  
 به دفن کولے شی ستا به کور کنیے درے داسے سړی چه هغه به بهترین  
 الْأَرْضِ فَلَمَّا تَوَفَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 وی دزمکه به خلقو کنیے، نو کله چه وفات شو رسول الله صلی الله  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُفِنَ فِي بَيْتِي قَالَ لِي  
 علیه وسلم او دفن کرے شو خما به کور کنیے نو راته او فرمائیل  
 أَبُو بَكْرٍ هَذَا أَوْ أَحَدٌ مِّنْ أَقْبَارِكِ وَهُوَ  
 ابوبکرؓ چه دا هغه یوه سپورمن ده ستا به سپور مو کنیے او دا  
 خَيْرُهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ  
 زیاته بهتره ده به هغو کنیے. رحمت دالله دوی به هغوی باندے او به  
 وَسَلَّمَ كَثِيرًا  
 آل دهغوی او دیر دیر سلام دوی

أَلْحِزْبُ الْأَوَّلُ  
 دا ږو میے حزب دے  
 فَصَلْ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ  
 فصل دے به کیفیت د درود لیکلو کنیے به نبی کریم  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
 صلی الله علیه وسلم باندے  
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 شروع کوم دالله په نوم سره چه دیر مهربان دیر رحم کونکے دے  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ  
 رحمت دالله دوی به سردار او مولی زمونیر محمد باندے  
 وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ  
 او به آل دهغوی او به اصحابو دهغوی او سلام  
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ  
 اے الله رحمت او لیرے به سردار زمونیر محمد باندے او

اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ

پہ بیبیانو دھغوی او پہ اولاد دھغوی خنگہ چہ تار حمت لیکلے دے پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا اِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَيَّ

سردار او مولا زمونیر ابراهیم باندے او برکت او لیجے پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَازْوَاجِهِ

سردار او مولا زمونیر حضرت محمد باندے او دھغوی پہ بیبیانو

وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَيَّ اِلٰى سَيِّدِنَا

او دھغوی پہ اولاد باندے خنگہ چہ تابرکت لیکلے دے پہ سردار زمونیر

وَمَوْلَانَا اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

او پہ مولا زمونیر ابراهیم باندے بیشکہ تہ ڈیر ستائیلے شومے لونی والائے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اے اللہ رحمت او لیجے پہ سردار زمونیر او پہ مولا زمونیر حضرت

مُحَمَّدٍ وَعَلَيَّ اِلَيْهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ

محمد باندے او دھغوی پہ آل باندے خنگہ چہ تار حمت لیکلے دے پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا اِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَيَّ

سردار زمونیر او پہ مولا زمونیر ابراهیم باندے او برکت او لیجے پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيَّ اِلٰى

سردار زمونیر او پہ مولا زمونیر حضرت محمد باندے او پہ آل

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

دسردار او مولا زمونیر حضرت محمد باندے خنگہ چہ تابرکت لیکلے دے

عَلَيَّ اِلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا اِبْرَاهِيمَ فِي

پہ آل دسردار او مولا زمونیر حضرت ابراهیم باندے پہ

اَلْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ


عالمونو کنے بیشکہ تہ ڈیر ستائیلے شومے اور دلویے والائے اے اللہ

صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ

رحمت او لیجے پہ سردار او مولیٰ زمونیر حضرت محمد باندے او پہ

اِلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

آل دسردار او مولا زمونیر حضرت محمد باندے خنگہ چہ تار حمت لیکلے دے



عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

زموئير سردار ابراهيم باندے او برکت اوليرے په سردار زموئير

مُحَمَّدٍ وَ اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

محمد باندے او په آل د سردار زموئير محمد باندے څنگه چه تارکت ليكلے دے

عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ

زموئير په سردار ابراهيم باندے . بيشكه ته ډير ستايلے شوے

مَجِيْدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او لوني والائے . اے خدايه رحمت او ليرے په سردار زموئير

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى اِل سَيِّدِنَا

محمد باندے چه نالوستے نبي دے او په آل د سردار زموئير

مُحَمَّدٍ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد باندے اے الله رحمت اوليرے په سردار زموئير

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ۝

محمد باندے چه ستا بنده دے او ستا رسول دے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے الله رحمت او ليرے څموئير په سردار محمد باندے او په

اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا

آل د سردار زموئير محمد باندے څنگه چه تارحمت كړ دے په سردار زموئير

اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اِل سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ

ابراهيم باندے او په آل د سردار زموئير ابراهيم باندے بيشكه ته

حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

ډير ستايلے شوے ته دلوني والائے اے الله برکت اوليرے زموئير په سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

محمد باندے او په آل د سردار زموئير محمد باندے څنگه چه تا

بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اِل

برکت ليرلے دے په سردار زموئير ابراهيم باندے او په آل

سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

د سردار زموئير ابراهيم باندے بيشكه ته ډير ستايلے شوے او دلوني والائے

اللَّهُمَّ وَتَرَحَّمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ای الله اور رحم او کرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ

پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ رحمت کریدے

عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پہ سردار زمونیر ابراہیم باندے او پہ آل د سردار زمونیر

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ

ابراہیم باندے بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوے او دلونی خاوند نے ایے الله

وَتَحَنَّنْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

او مہربانی او کرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَى سَيِّدِنَا

دسردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ تامہربانی کرے دہ پہ سردار زمونیر

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

ابراہیم باندے او پہ آل د سردار زمونیر ابراہیم باندے بیشکہ تہ

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى

دیر ستائیلے شوے او دلونی خاوند نے ایے الله او سلام اولیرے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے

كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى

خنکہ چہ تا سلام لیرے دے پہ سردار زمونیر ابراہیم باندے او پہ آل

آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝

دسردار زمونیر ابراہیم باندے بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوے او دلونی خاوند نے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ایے الله درود اولیرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا

دسردار زمونیر محمد باندے اورحم او کرے پہ سردار زمونیر محمد باندے

وَأَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

او پہ آل دسردار زمونیر محمد باندے او برکت اولیرے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

محمدؐ باندے او بہ آل د سردار زمونیر محمدؐ باندے خنکہ چہ تا

صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

درو دلیرے دے اور رحمت دنازل کرے دے اوبرکت دلیرے دے بہ سردار زمونیر

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي

ابراہیمؑ باندے او بہ آل د سردار زمونیر ابراہیمؑ باندے بہ

الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ

عالمو کنہے بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوئے، دلوی خاوندئے، اے اللہ

صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ

درو داو لیرے بہ سردار زمونیر محمدؐ باندے خوک چہ نبی دے او بہ بیبانو

أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ

دھغوی چہ دمومانو میندے دی او بہ او لاددھغوی باندے او بہ اهل بیتو

بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

دھغوی خنکہ چہ تا درود دلیرے دے بہ سردار زمونیر ابراہیمؑ باندے

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ بَارِكْ

بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوے دلوی خاوندئے اے اللہ، برکت او لیرے

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

بہ سردار زمونیر محمدؐ باندے او بہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

محمدؐ باندے خنکہ چہ دبرکت لیرے دے بہ سردار زمونیر ابراہیمؑ باندے

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ دَاخِيَ الدَّحْوَا

بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوے، دلوی خاوندئے، اے اللہ ذمکو

وَبَارِئِ الْمَسْمُوكَاتِ وَجَبَّارِ الْقُلُوبِ

فرش غورونکیہ او پیدا کونکیہ داو چتو آسمانو نو او مجبورونکیہ دزرونو

عَلَىٰ فِطْرَتِهَا شَقِيهَا وَسَعِيدِهَا اجْعَلْ

بہ پیدا کولو دھغوی بدبختہ دھغوی او نیک بختہ دھغوی او گر خوم

شَرَّ آيَفَ صَلَوَاتِكَ وَتَوَامِي بَرَكَاتِكَ

عزتمند رحمتونہ خپل او زیاتیدونکی برکتونہ خپل

وَرَافَةٌ تَحْنُوكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

او لوئے مہربانی خیلے زمونیر پہ سردار محمدؐ باندے

عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقُ

چہ ستابندہ اور رسول دے کوم چہ پرانستونکے دے دھغہ خیز چہ بندوو

وَالخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالْمُعَلِّينَ الْحَقِّ

او ختمونکے دھغہ خیز چہ تیرشومے دے او ظاہرونکے دحق دے

بِالْحَقِّ وَالِدَامِغِ لِحَبِشَاتِ الْبَاطِلِ

پہ راستی سرہ او ماتونکے دے دباطلو لبیکرو خنگہ چہ راپورتہ

كَمَا حُمِلَ فَاضْطَلَعَ بِأَمْرِكَ بِطَاعَتِكَ

کرمے شوی ووپس تیارشوستاپہ حکم باندے ستا فرمان برداری ته

مُسْتَوْفِرًا فِي مَرْضَاتِكَ وَأَعْيَا لَوْحِيكَ

تلوار کونکے پہ ستا رضامندی کنہی خیال ساتونکے دے ستا دوحی

حَافِظًا لِعَهْدِكَ مَا ضِيًّا عَلَى نِقَازِ أَمْرِكَ

حفاظت کونکے دے دلو ط ستابو تلونکے دے ستا حکم پہ نافذ کولو

حَتَّىٰ أُرَى قَبَسًا لِقَائِيسٍ لَأَيُّ اللَّهِ تَصِلُ

تردے پورے چہ رویشانہ نے کرہ دنور شغلہ دپارہ درنا خستونکی دالله نعمتہ

بِأَهْلِهِ أَسْبَابُهُ بِهِ هُدِيَّتِ الْقُلُوبُ

پوخائے کوی اهل خیل خیلوسیبونوسرہ دھغوی پہ ذریعہ ہدایت کرمے شومے

بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَالْإِثْمِ وَأَبْهَجَ

دے زبونوتہ روسو ددوبیدلونہ پہ فتنو او گناہونو کنہی او زینت نے ور کرو

مَوْضِعَاتِ الْأَعْلَامِ وَنَائِرَاتِ الْأَحْكَامِ

خلیدونکو نشانونوتہ او حکمونہ خلونکو

وَمُنِيرَاتِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ أَمِينُكَ

او دا سلام رویشانہ کونکو خیزونو لرہ پس ہغہ امین دے

الْمَأْمُونُ وَخَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْرُوجُ

ستا امن ور کرمے شومے اونکھیان دے ستا دہبت علم

وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ وَبِعَيْتِكَ نِعْمَةٌ

او گواہ ستا دے پہ روح دجزا او ستا رالیرے شومے نعمت دے

وَرَسُولِكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً ۝ اللَّهُمَّ

اور رسول ستادمے پہ حق سرہ سراسر رحمت دے امے اللہ فراخ کرے

افسَحْ لَهُ فِي عَدْنِكَ وَاجْزِهِ مُضَاعَفَاتٍ

ہفہ دہارہ خائے دہفہ پہ خیل جنت کنیے اوبدلہ ور کرے ہفہ لہ ددو چندو

الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ مُهْتَابٍ لَّهُ غَيْرِ

نیکیانو دخیل فضل نہ چہ خوشگوارہ وی ہغوی د پارہ بغیر

مُكَدَّرَاتٍ مِّنْ فَوْزِ تَوَائِيكِ الْمَحْلُولِ

ذکدورت نہ سرہ دکامیابی دثواب ستاکوم چہ نازل کرے شوے دے

وَجَزِيلٍ عَطَائِكَ الْمَعْلُولِ ۝ اللَّهُمَّ

او دلونے ور کرے ستا کومہ چہ پرلہ پسے راتلونکے دہ۔ امے اللہ

اعْلِ عَلَى بِنَاءِ النَّاسِ بِنَاءَهُ وَ أَكْرِمِ

او چت کرے پہ آبادی دخلقو آبادی دہغوی او عزتمندہ کرے تہکانہ

مَثْوَاهُ لَدَيْكَ وَ نُزْلَهُ وَ اتِّمِمْ لَهُ

دہغوی خیل خان سرہ او میلیمستیادہغوی او پورہ کرے ہغوی دہارہ

نُورَهُ وَ اجْزِهِ مِنْ ابْتِعَاثِكَ لَهُ

نور دہغوی اوبدلہ ور کرے ہغوی تہ پہ خیلوراپور تہ کولوسرہ ہغوی لہ

مَقْبُولِ الْمَقَالَةِ وَ مَرْضَى الْمَقَالَةِ

مقبول والے د گواہی او خوبش والے ذخیرو

ذَامِنَطِقِ عَدْلٍ وَ حُطَّةٍ قَصْلِ وَ

کومہ چہ د انصاف گویائی دہ او فیصلہ دشان والا او

بُرْهَانٍ عَظِيمٍ ۝ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ

لونے حجت والا پئے۔ بیشکہ اللہ تعالیٰ او فرشتے دہفہ

يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

رحمت لیبری پہ نبی باندمے۔ امے ایمان والو

صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ لِيَبْئِكَ

درو دا لیبری پہ ہفہ باندمے او سلام پراو لیبری ذیر سلام۔ زہ ستا خدمت تہ

اللَّهُمَّ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ صَلَوَاتُ اللَّهِ

حاضریم۔ امے اللہ خمار بہ او مدد کوم (ستا ددین) رحمتونہ د اللہ

الْبَرِّ الرَّحِيمِ وَالْمَلِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

احسان کونکي مهربان او ذ مقربو فرشتو

وَالنَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

او د پيغمبرانو او صديقانو او شهيدانو

وَالصَّالِحِينَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ

او نیک بختانو او هغه چه پاکی بيانوي ستا دهر خيزنه

يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے پروردگاره د عالمونو په سردار زمونږ محمد

ابن عبد الله خاتمة النبيين وسيد

خونے د عبدالله چه آخري پيغمبر دے او سردار

المرسلين و امام المتقين و رسول

د رسولانو دے او امام دهر هيزگارانو او رسول

رب العالمين الشاهد لبشير الداعي

د رب العلمين دے. گواهي ورکونکے 'زيرے ورکونکے رابلونکے

إلَيْكَ يَا ذَنبِكَ السِّرَاحِ الْمُنِيرِ وَعَلَيْهِ

ستا طرف ته ستا په حکم سره چراغ روښانه او په هغوی د

السَّلَامِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ

سلام وي. اے الله نازل کرے رحمتونه خپله

وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

او برکتونه خپله او مهرباني خپله په سردار د مرسلانو

وَامَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّنَ

او په امام دهر هيزگارانو او په ختمونکي د پيغمبرانو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ

په سردار زمونږ محمد باندے چه ستا بنده او رسول دے

إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ

امام د نيکي دے او راښکونکي د نيکي دے او رسول

الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا

د رحمت دے. اے الله پا سوه هغوی لره مقام

مَحْمُودًا يَغِيظُهُ فِيهِ الْاَوْلُونَ وَ

محمود ته چه پسخیدل ورته او کړي په هغه کېنې مخکني او

الْاٰخِرُونَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

روستوني. اے الله رحمت او لېرې په سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

محمدبانده او په آل د سردار زمونږ محمدبانده څنگه چه در رحمت ليكلې دے

عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ۝

په سردار زمونږ ابراهيم بانده بيشكه ته ډير ستايله شوم دلوي خاوند ئے

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اے الله برکت او لېرې په سردار زمونږ محمد بانده او په

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى

آل د سردار زمونږ محمد بانده څنگه چه در برکت ليكلې دے په

سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ۝

سردار زمونږ ابراهيم بانده بيشكه ته ډير ستايله شوم دلوي خاوند ئے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اے الله رحمت او لېرې په سردار زمونږ محمدبانده او په آل د هغوی او په

اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَوْلَادِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَ

اصحابو د هغوی او په اولاد د هغوی او په بیانو د هغوی او په بچو

ذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَ

د هغوی او په اهل بیتو د هغوی او په سخر کنی د هغوی او په مددگار

اَنْصَارِهٖ وَاَشْيَاعِهٖ وَمُحِبِّيِهٖ وَاُمَّتِهٖ وَ

انو د هغوی او په پیروي کونکو د هغوی او په محبت کونکو د هغوی او په

عَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِينَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ ۝

امت د هغوی او په مونږه بانده سره د هغوی ټولو. اے د ټولو نه زیات رحم کونکېه

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَّةَ

اے الله رحمت او لېرې په سردار زمونږ محمد بانده په شمار د هغه چا

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

چه درود ئے وربانده ليكلې دے اور رحمت او کړې په سردار زمونږه

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَ

محمد باندے پہ شمار دہفہ چاچہ درود نے نہ دے لیکلے پہ ہغوی باندے او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا

رحمت اولیرے پہ سردار زمونیر محمد باندے خنکے چہ تا حکم کرے دے مونیرتہ

بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ كَمَا تُحِبُّ

پہ درود لیکلو پہ ہفہ باندے اور رحمت اولیرے پہ ہغوی باندے خنکے چہ

أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

تہ خوبنومے درد لیرل پہ ہغوی باندے . اے اللہ رحمت اولیرے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے

كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ ۝

خنکے چہ تا حکم کرے دے مونیرتہ چہ درود اولیرو پہ ہفہ باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ ۝

آل د سردار زمونیر محمد باندے خنکے چہ ہفہ لائق د دے دے .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت او لیرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَاهُ

آل د سردار زمونیر محمد باندے خنکے چہ تہ خوبنومے اور اضی کیرے ہرے

لَهُ ۝ اللَّهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دپارہ دہفہ . اے اللہ اے ربہ د سردار زمونیر محمد

وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او د آل د سردار زمونیر محمد رحمت او لیرے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَعْطِ

محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے او ور کرے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالدَّرَجَةِ وَالْوَسِيلَةِ

زمونیر سردار محمد تہ درجہ او وسیلہ

فِي الْجَنَّةِ ۝ اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

به جنت کنی۔ اے اللہ! اے پروردگارہ د سردار زمونیر محمد

وَ اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِجْزِ سَيِّدَنَا

او ذ آل د سردار زمونیر محمد، بدلہ ور کرے سردار زمونیرہ

مُحَمَّدًا اَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہ د کومے چہ ہغہ

اَهْلُهُ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لائق وی۔ اے اللہ رحمت او لیرے پہ سردار زمونیر محمد باندے

وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَهْلِ

او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے او پہ اهل بیتو

بَيْتِهِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

دھغوی۔ اے اللہ دردو او لیرے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے او پہ

اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنْ

آل د سردار زمونیر محمد باندے تردے پورے چہ ہاتے نشی

الصَّلٰوةِ شَيْءٌ ۝ وَاَرْحَمُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا

ذ درود نہ ہیخ شے۔ او رحم او کرے پہ سردار زمونیر محمد باندے

وَ اَل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنْ

او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے تردے چہ ہاتے نشی

الرَّحْمَةِ شَيْءٌ ۝ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا

درحمت نہ ہیخ شے۔ او برکت او لیرے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے

حَتّٰى لَا يَبْقٰى مِنَ الْبَرَكَاتِ شَيْءٌ ۝ وَسَلِّمْ

تردے پورے چہ ہاتے نشی د برکت نہ ہیخ شے او سلام او لیرے

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا

پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ السَّلَامِ شَيْءٌ ○

محمدؐ باندے تردے ہورے چہ ہاتے نشی د سلام نہ ہیخ شے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے پہ

الْأَوَّلِينَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اولنو کنے او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے

فِي الْآخِرِينَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پہ آخرنو کنے او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے

فِي النَّبِيِّينَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پہ نبیانو کنے او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے

فِي الْمُرْسَلِينَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پہ رسولانو کنے او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ فِي لَمَلٍ أَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ○

محمدؐ باندے پہ فرشتو کنے ترورخ د جزا ہورے

اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَوْ سَيْلَةٍ

اے اللہ! ورکھے زمونیر سردار محمدؐ تہ وسیلہ

وَالْفَضِيلَةِ وَالشَّرَفِ وَالذَّرَجَةِ الْكَبِيرَةِ

او فضیلت او بزرگی او لویہ درجہ اے اللہ!

اللَّهُمَّ إِنِّي آمَنْتُ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

بیشکہ ما ایمان واؤرے دے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے حالانکہ

لَمَّا رَأَهُ فَلَا تَحْرِمْنِي فِي لِحْنَانِ رُؤْيَيْتَهُ

ماہغہ نہ دے لیدلے نوماحروم مہ کرے پہ جنت کنے دھغوی د لیدلہ نہ

وَأَرْزُقْنِي صُحْبَتَهُ وَتَوْفِقِي عَلَى مِلَّتِهِ

اورا نصیب کرے ملکر تیا دھغوی او وفات مے کرے پہ ملت دھغہ

وَأَسْقِنِي مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَبًا رَوِيًّا

اورا باندے او سکوی دھغوی د حوض نہ سکل سیرابونکی

سَأِيغَاهِنِيغًا لَا نَظْمًا بَعْدَهُ أَبَدًا إِنَّكَ

دھری نہ تیریلونکی خوشگوار چہ مونیر تری نشو دھغہ نہ پس ہیجرے بیشکہ تہ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ اللَّهُمَّ أَيْلِغْ رُوحَ

پہ ہر خیز باندے قدرت لرونکے نے اے اللہ اور سوسے زمونیر دسردار محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنِّي تَجِيَّةً وَسَلَامًا ۝

روح ته خما د طرفه دعا او سلام

اللَّهُمَّ وَكَمَا أَمَنْتُ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ او خنکھ چه ما ایمان راڑرے دے پہ سردار زمونیر محمد او

لَمَّارَةٌ فَلَا تَحْرِمْنِي فِي لِحْنَانِ رُؤْيَيْتَهُ

حال داچه لیدلے مے نہ دے پس مامحروم مه کرے پہ جنت کنیے دھغوی

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ددیدارنہ اے اللہ قبول کرے شفاعت د سردار زمونیر محمد چه

الْكُبْرَىٰ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَأَتِهِ

لونه شفاعت دے او اوچتہ کرے دھغوی لوبہ درجه او ور کرے ورته

سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ كَمَا أَتَيْتَ

مراد دھغوی پہ آخرت او پہ دنیا کنیے خنکھ چه تاور کرے دے

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَيِّدِنَا مُوسَىٰ ۝ اللَّهُمَّ

زمونیر سردار ابراهیم ته او زمونیر سردار موسیٰ ته. اے اللہ

صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

رحمت اولیرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

دسردار زمونیر محمد باندے خنکھ چه تارحمت لیرے دے پہ سردار زمونیر

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَ

ابراہیم باندے او پہ آل دسردار زمونیر ابراهیم باندے او

بَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

برکت او لیرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

سردار زمونیر محمد باندے خنکھ چه تابرکت لیرے دے پہ سردار زمونیر

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

ابراہیم باندے اور پہ آل دسردار زمونیر ابراهیم باندے بیشک ته

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

دیرستائیلے شوے نے دبر رکھی خاوند نے۔ اے اللہ درود اولییرے او سلام

وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَ

او برکت پہ سردار زمونیر محمد باندے چہ ستا نبی دے او ستا رسول

رَسُولِكَ ۝ وَسَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلِكَ

دے۔ او پہ سردار زمونیر ابراہیم باندے چہ ستا خلیل دے او ستا

وَصَفِيْحِكَ وَسَيِّدِنَا مُوسٰى كَلِيْمِكَ وَ

خوبش کرے شوے دے او پہ سردار زمونیر موسیٰ باندے چہ ستا کلیم دے او

نَجِيْحِكَ ۝ وَسَيِّدِنَا عِيْسٰى رُوْحِكَ وَ

ستاہمراز دے، او پہ سردار زمونیر عیسیٰ باندے چہ ستا روح دے او

كَلِمَتِكَ وَعَلٰى جَمِيْعِ مَلٰئِكَتِكَ وَرُسُلِكَ

ستا کلمہ دے، او پہ تہولو ملائکو ستا او پہ رسولا نو ستا

وَ اَنْبِيَاۓكَ وَ خَيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ

او پہ نبیانو ستا او پہ غورہ گسانو د مخلوق ستا او پہ

اَصْفِيَاۓكَ وَ خَاصَّتِكَ وَ اَوْلِيَاۓكَ مِنْ

خوبش کرے شوے ستا او پہ خاصا نو ستا او پہ دوستانو ستا کوم چہ

اَهْلِ اَرْضِكَ وَ سَمٰۓكَ ۝ وَ صَلَّى اللّٰهُ

او سیدونکی دی ستادزمکے او ستا د آسمان، او رحمت د اللہ دوی

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقِهِ وَ حُضْنًا

پہ سردار زمونیر، محمد باندے پہ شمیر دمخلوق دہغه او پہ رضا کیدلو

نَفْسِهٖ وَ زِيْنَةَ عَرْشِهٖ وَ مَدَادَ كَلِمَاتِهٖ وَ

ذذات دہغه، او پہ وزن دعرش دہغه او پہ مقدار دسیاهی دکلمو دہغه

كَمَا هُوَ اَهْلُهُ وَ كَلِمًا ذَكَرَهُ الذُّكْرُوْنَ

او خنکے چہ ہغه لائق د دے دے، او کلمہ چہ یا ذوی نے یا ذونکی

وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ وَعَلٰى اَهْلِ

او کلمہ چہ غفلت کوی د ذکر دہغه نہ غفلت کونکی او پہ اهل بیو

بَيْتِهٖ وَ عِثْرَتِهٖ الطَّاهِرِيْنَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا

دہغوی باندے او پہ اولاد دہغوی چہ پاکان دی او سلام پرے اولییرے دیر دیر۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ارے اللہ رحمت او لبرے زمونبر پہ سردار محمد باندمے او بہ

أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَعَلَى جَمِيعِ النَّبِيِّينَ

بیبیانو دھفے او بہ اولاد دھفے او بہ تولو نبیانو

وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْمُقَرَّبِينَ وَ

او رسولانو او بہ ملانکو او بہ مقربینو او داللہ

جَمِيعِ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ عَدَدَ مَا أَمْطَرَتْ

بہ تولو نیکانو بندگانو بہ شمار دھفے شاخکو چہ ورولی دی

السَّمَاءُ مِنْذُ بَنِيَّتِهَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

آسمان کله نہ چہ تادمے پیدا کرے دے اورحمت اولبرے بہ سردار زمونبر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْذُ

محمد باندمے بہ شمار دھفے شینکو چہ زرغون کرے دی زمکے دکله راسے

دَحْوَتِهَا وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

چہ تا داغورولے دے اورحمت اولبرے بہ سردار زمونبر محمد باندمے

الْجُودِ فِي السَّمَاءِ فَإِنَّكَ أَحْصَيْتَهَا ○ وَ

بہ شمار دھفے ستورچہ بہ آسمان کنے دی خکے چہ تادا شمارلی دی او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَنَفَّسَتْ

رحمت اولبرے بہ سردار زمونبر محمد باندمے بہ شمار دھفے چہ سا کلمے اخلی

الْأَسْرَاحُ مِنْذُ خَلَقْتَهَا ○ وَصَلِّ عَلَى

تول ساه لرونکی چہ کله راسے تادا پیدا کرے دی اورحمت اولبرے بہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَمَا

سردار زمونبر محمد باندمے بہ شمار دھفے مخلوق چہ تا پیدا کرے دے او هفے

تَخَلَّقَ وَمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَأَضَاعَ

چہ تہ بہ نئے پیدا کرے او هفے چہ چاپیرہ دے ورباندمے علم ستا او دوچند

ذَلِكَ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ عَدَدَ خَلْقِكَ

ددمے ارے اللہ رحمت اولبرے بہ هفوی باندمے بہ شمار دمخلوق خیل

وَرِضَاءِ نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ

او بہ رضا کیدلو دذات خیل او بہ وزن دعرش خیل او بہ مقدار دسیاهی

كَلِمَاتِكَ وَمَبْلَغَ عِلْمِكَ وَآيَاتِكَ ○

دکلمتو سٽا او په انداز ۷ د علم سٽا او دنښو سٽا.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَوةً تَفُوقُ وَ

اے الله رحمت او ليرې په هغوي داسه رحمت چه او چت او

تَفْضُلُ صَلَوةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْخَلْقِ

غوره وي د درود ليکونکو درود نه په هغوي باندې د ټول

أَجْمَعِينَ كَفَضْلِكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ ○

مخلوق نه څنگه چه سٽا فضيلت دې په ټول مخلوق سٽا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَوةً دَائِمَةً مُسْتَمِرَّةً

اے الله رحمت او ليرې په هغوي باندې داسه رحمت چه هميشه وي او

الدَّوَامَ عَلَى مَرِّ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ مُتَّصِلَةً

جاري اوسي څومره پورې چه هميشه او جاري دي شپې او ورځې متصل وي

الدَّوَامَ لَا انْقِصَاءَ لَهَا وَلَا انْصِرَامَ عَلَى

هميشه والي سره چه نه ئې پوره والې وي او نه ئې پر يکيدل وي په

مَرِّ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ عَدَّةً كُلِّ وَابِلٍ وَكُلِّ

جاري والي د شپو او د ورځو په شمار دهر باران او د پرنې اے الله

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَسَيِّدِنَا

رحمت او ليرې په سردار زموږ محمد باندې چه ستاڼې دې او په سردار زموږ نبي

أَبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَعَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ وَأَصْفِيَاءِكَ

ابراهيم چه ستا خليل دې او په ټولو پيغمبرانو خپلو او خاصانو خپلو

مِنْ أَهْلِ أَرْضِكَ وَسَمَاوَاتِكَ عَدَّةً خَلْقِكَ

ستا د زمکې او سيلو نگونه او د اسمان او سيلو نگونه په شمار د مخلوق سٽا

وَرِضَاءِ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَوِدَادِ

او په رضامندی د ذات سٽا او په وزن د عرش سٽا او په سپاهي

كَلِمَاتِكَ وَمُنْتَهَى عِلْمِكَ وَزِنَةَ جَمِيعِ

دکلمتو سٽا او په منتهی د علم سٽا او په وزن د ټولو

مَخْلُوقَاتِكَ صَلَوةً مُكْرَرَةً أَبَدًا عَدَدَ مَا

مخلوقانو ستا داسه رحمت چه پرله پسې وي هميشه په شمار دهغه چه

أَحْضِرْ عِلْمَكَ وَمِلَّءْ مَا أَحْضَرْتَهُ عِلْمَكَ

کیر کړي دي علم ستا او په ذکر کوالي دهغه چه کیر کړي دي علم ستا

وَأَضْعَافَ مَا أَحْضَرْتَهُ عِلْمَكَ صَلَاةً تَزِيدُ

اوپه دو چند دهغه چه کیر کړي دي علم ستا داسه رحمت چه زیات وي

وَتَفُوقُ وَتَفْضُلُ صَلَاةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِمْ

اوپورته وي اوزیات شوم وي په درود د درود دویونکو په هغوی باندی

مِنَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ كَفَضْلِكَ عَلَا

د ټولو مخلوقاتو نه څنگه چه ستا او چتوالی دے په

جَمِيعِ خَلْقِكَ ثُمَّ تَدْعُوا بِهَذَا الدُّعَاءِ

ټول مخلوق ستا. بیا ته او غواړه دے دعا لره

فَأِنَّهُ مَرْجُو الْإِجَابَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

څکه چه دهغه د قبول کوالی امید کیدل شي کچرے او غواړي الله تعالی

بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

پس د درود لیر لونه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندی

وَسَلِّمْ ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ لَزِمَ مِلَّةَ

اے الله او کړخوے ما دهغه چا نه چه لازم نے نیولے دے ملت

نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

د نبی ستا چه زمونږه سردار محمد صلی الله علیه وسلم دے او اوچته

وَسَلِّمْ وَعَظَّمَ حُرْمَتَهُ وَأَعَزَّ كَلِمَتَهُ وَ

نے لرلے ده مرتبه دهغوی او عزتمندہ نے لرلے ده کلمه دهغوی او خیال

حَفِظَ عَهْدَهُ وَذِمَّتَهُ وَنَصَرَ حَزْبَهُ وَ

نے ساتلے دے دلوظا دهغوی او دوعلمے دهغوی او امداد نے کړے دے ددلے

دَعْوَتَهُ وَكَثَّرْتَ تَابِعِيهِ وَفَرَّقْتَهِ وَوَأَتَى

دهغوی او دعوت دهغوی اوزیات کړي نے دي پیروي کونکي دهغوی

زَمْرَتَهُ وَلَمْ يُخَالَفْ سَبِيلَهُ وَسُنَّتَهُ ۝

اوپوره کړے نے ده ډله دهغوی او مخالفت نے نه دے کړے دهغوی دلاړے او

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْإِسْتِسْكَاءَ بِسُنَّتِهِ


طریقے نه اے الله زه سوال کومه تانه دمنگلو لگولو نه په طریقے دهغوی

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْإِنْجِرَافِ عَمَّا جَاءَ  
 او پناه غوارم پنا سره چه واژرم دهغه څه نه کوم چه هغوی راوړي  
 بِهِ ۰ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا  
 دي اے الله زه سوال کوم تانه دهغه بهتر دڅیزونو کوم چه  
 سَأَلْتُكَ مِنْهُ سَيِّدُ نَا مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ  
 غوښتي دي تانه سردار زمونیر محمد چه ستا نبي دے او ستا  
 رَسُولَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ  
 رسول دے صلي الله عليه وسلم او پناه غوارم پنا سره  
 مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ سَيِّدُ نَا مُحَمَّدٌ  
 دشړه دهغه بدی نه چه ستا پناه غوښتي ده دهغه نه سردار زمونیر محمد  
 نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 چه ستا نبي او رسول دے صلي الله عليه وسلم  
 اللَّهُمَّ أَعِصِمْنِي مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ وَعَاقِبَتِي  
 اے الله بچ کرے ما دفتنو دشړنه او محفوظ مے او لرے

مِنْ جَمِيعِ الْبَحْنِ وَأَصْلِحْ مِنِّي مَا ظَهَرَ  
 دټولو محتنونونه او درست کرے ځمانه کوم چه ظاهر دي  
 وَمَا بَطَّنَ وَتَقِّ قَلْبِي مِنَ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ  
 او کوم چه پټ دي او پاک کرے زړه ځماد کينه نه او د حسد نه  
 وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ تَبَاعَةَ لِأَحَدٍ ۰ اللَّهُمَّ  
 اومه اچوم په ما باندے تاوان دهيجا. اے الله  
 إِنِّي أَسْأَلُكَ الْإِخْتِيارَ بِأَحْسَنِ مَا تَعْلَمُ  
 زه سوال کوم تا نه دتوفيق دهغه بهتر والي چه تا ته معلوم دے  
 وَالتَّوَكُّلَ لِسَيِّئِ مَا تَعْلَمُ وَأَسْأَلُكَ التَّكْفُلَ  
 او دپهړينو دلو دهغه بدو کومے چه تا ته معلوم دے دي او غوارم تانه بهر وسه  
 بِالرِّزْقِ وَالرُّهْدَ فِي الْكِفَافِ وَالْمَخْرَجَ بِالْبَيَانِ  
 په رزق سره او زهد په څرخ کولو کښے او وتل په ظاهر بدلو  
 مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ وَأَقْلَحَ بِالصَّوَابِ فِي كُلِّ  
 دهرے شهبے نه او فتح مندي په حق امر سره په هر

حُجَّةٌ وَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَاءِ  
 حجت کنیے او عدل پہ غصے او پہ رضا کنیے  
 وَالتَّسْلِيمَ لِمَا يَجْرِي بِهِ الْقَضَاءُ وَالْاِقْتِصَادَ  
 او قبول دہنے چہ جاری شوم دے ورباندے حکم ستا او میانہ روی  
 فِي لِقَقْرِ وَالْغِنَى وَالْتَّوَاضَعُ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ  
 پہ غریبی او مالدارئ کنیے او عاجزی کول پہ قول او فعل کنیے  
 وَالصِّدْقُ فِي الْجِدِّ وَالْهَزْلِ ○ اَللّٰهُمَّ  
 او درست والے (ریشتوالے) پہ سمہ خندہ او پہ توفہ کنیے۔ اے اللہ بیشکہ  
 اِنِّيْ ذُوْ بَايِعِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ وَذُوْ بَا  
 خماخہ گناہونہ دی کوم چہ خما او ستا ترمینخہ دی او خہ گناہونہ دی  
 فِيمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَلْقِكَ ○ اَللّٰهُمَّ مَا  
 کوم چہ خما او ستا د مخلوق ترمینخہ دی۔ اے اللہ کوم  
 كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاعْفِرْهُ وَمَا كَانَ مِنْهَا  
 گناہونہ چہ رانہ ستاشوی دی نو هغه رانہ او بخنیے او کوم چہ رانہ شوی دی

لِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلَهُ عَنِّيْ وَاعْنِنِيْ بِفَضْلِكَ  
 ستادمخلوق نو پور تہ نے کرے خمانہ۔ او بے پرواہ مے کرے پہ خچل فضل سرہ  
 اِنَّكَ وَاِسْعُ الْمَغْفِرَةِ ○ اَللّٰهُمَّ تَوَرَّ بِالْعِلْمِ  
 بیشکہ تہ دلونے مغفرت والا ئے۔ اے اللہ رو بسانہ کرے پہ علم سرہ  
 قَلْبِيْ ○ وَاِسْتَعْمَلْ بِطَاعَتِكَ بَدَنِيْ ○  
 زره خما او استعمال کرے پہ طاعت خچل کنیے بدن خما  
 وَخَلِّصْ مِنْ الْفِتَنِ سِرِّيْ ○ وَاَشْغَلْ  
 او خلاص کرے د فتنونہ باطن خما او مشغول کرے پہ  
 بِالْاِعْتِبَارِ فِكْرِيْ ○ وَرَقْنِيْ شَرًّا وَسَاوِسَ  
 عبرت سرہ فکر خما او ما اوسا تے دوسوسو  
 الشَّيْطَانِ ○ وَاَجْرِنِيْ مِنْهُ يَا رَحْمٰنُ  
 دشيطان نہ او پناہ را کرے دہغه نہ اے ڈیر مہربانہ  
 حَتّٰى لَا يَكُوْنُ لَهٗ عَلَيَّ سُلْطٰنٌ ○  
 تردے پورے چہ او نشی هغه لره غلبہ پہ ما باندے



الْحَزْبُ الثَّانِي  
دویم حزب ذہبی دورخی

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَ

اے اللہ زہ غوارم تا نہ ہغہ خیرونہ چہ تا تہ معلوم دی او

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ

پناہ غوارم پتاسرہ دہغہ شرونونہ چہ تا تہ معلوم دی او تانہ بخنبہ غوارم

مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا تَعْلَمُ

دہرے ہغہ گناہ چہ تا تہ معلومہ دہ بیشکہ تہ پوہیرے او مونیر نہ پوہیرو

وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي

اوتہ ڈیر پوہیدونکے نی پہ غیبو باندمے اے اللہ او ساتے ما

مِنْ رَفَاقِي هَذَا أَوْ أَحَدًا قَلْبِي لِقَتْنِ تَطَاوُلِ

ددمے زمانے نہ او ذرا کبیرولو د فتنونہ او د ظلم کولو

أَهْلِ الْجُرَاةِ عَلَيَّ وَأَسْتَضِعُّهُمْ إِيَّايَ

دزبرہ ورائونہ پہ ما باندمے او د کمزوری گنبرلو دہغوی مالرہ

الْحَزْبُ الثَّانِي  
اے اللہ او کمر خومے مادخپل طرف نہ پہ مضبوطہ پناہ کنہے او پہ مضبوط

حَرِّ نَارٍ حَصِينٍ مِّنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ حَتَّى

قلعہ کنہے دتبول مخلوق خپل نہ تردمے پورے چہ راؤزشومے راتہ مرگ

تُبَلِّغَنِي أَجَلِي مُعَافَى ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

پہ دمے حال کنہے چہ عافیت راکرمے شومے وی اے اللہ رحمت او لبرے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زومونیر محمد باندمے او پہ آل دسردار زومونیر محمد باندمے پہ شمار

عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلَّىٰ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

دہغہ چاچہ درود نے لیکلے دمے پہ ہغوی باندمے اور حمت اولبرے

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

زومونیر پہ سردار محمد باندمے او پہ آل دسردار زومونیر محمد باندمے پہ شمار دہغہ

مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلَّىٰ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

چاچہ درود نے نہ دمے لیکلے پہ ہغوی باندمے اور حمت اولبرے زومونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

به سردار محمد باندے او په آل د سردار زموږ محمد باندے څنگه چه

تَتَّبِعِي الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

لا تقي دي رحمت ليكل په هغوی باندے او رحمت اوليرے په سردار زموږ

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

محمد باندے او په آل د سردار زموږ محمد باندے څنگه دے

تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

واجب دي درود ليرل په هغوی باندے او درود اوليرے په سردار زموږ

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

محمد باندے او په آل د سردار زموږ محمد باندے څنگه چه

أَمْرٌ أَنْ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ

ت احکم کرے دے د درود ليکلو په هغوی باندے او رحمت اوليرے په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زموږ محمد باندے او په آل د سردار زموږ محمد باندے

الَّذِي نُورُهُ مِنْ نُورِ الْأَنْوَارِ وَأَشْرَقَ

هغه هستي چه نور دهغوی اصل د ټولو نورو نودے او روښانه شول

بِشُعَاعِ سِرِّهِ الْأَسْرَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

سره د خليدو دراز دهغوی ټول رازونه اے الله رحمت اوليرے

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

په سردار زموږ محمد باندے او په آل د سردار زموږ

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الْأَبْرَارِ

محمد باندے او په اهل بيتو دهغوی نيکوکارانو

اجْمَعِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

ټولو باندے اے الله رحمت اوليرے په سردار زموږ

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ إِلِهِم بِحَرَائِرِكَ وَمَعْدِنِ

محمد باندے او په آل دهغوی کوم چه درياب دے دانوارو ستا او کان دے

أَسْرَارِكَ وَلِسَانِ مَجْتَبِكَ وَعَرْوَسِ

د رازونو ستا او زبه ده د حجت ستا او خلعي

مَمْلُكَتِكَ وَإِمَامَ حَضْرَتِكَ وَخَاتِمَ

د مملکت ستا او امام د دربار ستا او ختمونکے د نبیانو ستا

أَنْبِيَائِكَ صَلَوَةٌ تَدُومُ يَدًا وَإِمَامًا وَ

داسے رحمت چه همیشه وی به همیشه والی ستا او باقی پاتے شی

تَبْقَى بِبَقَائِكَ صَلَوَةٌ تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ

سره د باقی والی ستا داسے رحمت چه راضی کری تالره اوراضی کرے ته

وَتُرْضِي بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ○

هغه لره او ته راضی شه په هغه سره زمونږ نه اے د جهان پالونکیه

اللَّهُمَّ رَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ وَرَبَّ

اے الله پروردگار د حجل او د حرم او پروردگار

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

د مشعر حرام (مزدلفه) او پروردگار د حرمت والا کور

وَرَبَّ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ أَيْلِغْرِ لِسَيِّدِنَا

او پروردگار د رکن او مقام ابراهیم اورسوم زمونږ سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنَّا السَّلَامِ ○ اللَّهُمَّ

او زمونږ مولا محمد ته زمونږ د طرفه سلام. اے الله

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

رحمت اولیږے زمونږ په سردار او مولا محمد باندے چه سردار دے

الْأُولَى وَالْآخِرِينَ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

دمخکو او روستنو خلقو. اے الله رحمت او لیږے

عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي كُلِّ

زمونږ په سردار او مولا محمد باندے په هر یو

وَقْتٍ وَحِينٍ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

وخت او زمانه کنیے. اے الله رحمت او لیږے زمونږ آ سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَا أَعْلَى إِلَى

او زمونږ په مولا محمد باندے په ډله داوچو فرشتو کنیے تر

يَوْمِ الدِّينِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ورځ د بدله یورے. اے الله رحمت او لیږے زمونږ په سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتَّى تَرِثَ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ○

او زموڼر مولا محمد باندے تردے پورے چه وارث شے ته دزمکے او

هغه څه چه ددغے د پاسه دي او ته بهتر نے په ټولو وارثانو کنه

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

اے الله رحمت اولیرے زموڼر په سردار محمد باندے چه نبي دے

الرَّمِّيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

نالوستے دے او په آل د سردار زموڼر محمد باندے څنگه چه

صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

تا رحمت لیرے دے زموڼر په سردار ابراهیم باندے بیشکه ته

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ○ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

ستائیلے شونے دے دلویں خاوند نے او برکت او لیرے په سردار زموڼر

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الرَّمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى

محمد باندے چه نبي دے نالوستے څنگه چه تا برکت لیکلے دے په

محمد باندے چه نبي دے نالوستے څنگه چه تا برکت لیکلے دے په

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ○

سردار زموڼر ابراهیم باندے بیشکه ستائیلے شونے . دلویں خاوند نے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے الله رحمت اولیرے په سردار زموڼر محمد باندے او په آل د سردار

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ

زموڼر محمد باندے په شمار دهغه چه گهيره اچولے ده په هغه باندے

عِلْمُكَ وَجَرَى بِهِ قَلَمُكَ وَسَبَقَتْ

علم ستا او جاري شونے دے ورباندے قلم ستا او ورباندے شونے ده

بِهِ مَشِيئَتُكَ وَصَلَّتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَتُكَ

در باندے اراده ستا او چه درود لیکلے ورباندے ملائکو ستا داسے

صَلَاةٌ دَائِمَةٌ يَدَاؤُكَ بِأَقْيَمٍ بِفَضْلِكَ

رحمت چه همیشه وي سره دهمیشه والي ستا باقي وي په فضل ستا

وَإِحْسَانِكَ إِلَى أَبَدٍ أَبَدًا ○

او په احسان ستا تر همیشه همیشه پورے چه نه وي

او په احسان ستا تر همیشه همیشه پورے چه نه وي

نَهَايَةَ لَا بَدِيَّتِهِمْ وَلَا فَنَاءَ لَدَيْهِمْ وَمُؤَمِّتِهِمْ

انتہاد ہمیشہ والی دھغے اونہ وی فنا کیدل دھغے دہمیشہ والی دبارہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیہے پہ سردار زمونیر محمد باندمے او پہ آل د سردار

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ

زمونیر محمد باندمے پہ شمار دھغہ چہ گھیرہ اجولے پہ ہغے باندمے

عِلْمِكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَشَهِدَتْ

علم ستا او ضبط کبری دی کتاب ستا او گواہی ور کھے دہ پہ

بِهِ مَلَائِكَتُكَ وَأَرْضٌ عَنْ أَصْحَابِهِ

ہغہ سرہ ملائکو ستا او راضی شے دھغوی دا صحابونہ اورحم

وَأَرْحَمَ أُمَّتَهُ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

او کرے دھغوی پہ امت باندمے بیشکہ تہ دیر ستانیلے شومے نے د بزرگی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

والانی اے اللہ رحمت اولیہے پہ سردار زمونیر محمد باندمے او پہ

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَمِيعِ أَصْحَابِ

آل د سردار زمونیر محمد باندمے او پہ تہولو اصحابو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

د سردار زمونیر محمد باندمے اے اللہ رحمت اولیہے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

محمد باندمے او پہ آل و سردار زمونیر محمد باندمے خنکہ چہ

صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ

تا رحمت لیکلے دے زمونیر پہ سردار ابراہیم باندمے برکت او لیہے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا

پہ سردار زمونیر محمد باندمے او پہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

محمد باندمے خنکہ چہ تا برکت لیکلے دے پہ سردار زمونیر ابراہیم باندمے

وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ

او پہ آل د سردار زمونیر ابراہیم باندمے پہ عالمونو کنہے

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ بِخُشُوعٍ

بیشکھ تہ ذہیر ستانیلے شوے دلویں خاوند نے۔ اے اللہ بہ عاجزی

الْقَلْبِ عِنْدَ السُّجُودِ لَكَ يَا سَيِّدِي

دزہ سرہ تا تہ دسجدو کولو وخت کنے اے خما سردارہ

بِغَيْرِ دَانِكَارَنَهٗ يَا اللَّهُ يَا جَلِيلُ فَلَا

بغیر دانکارنہ او ستا بہ مدد سرہ اے اللہ اے لویں والا پس ہیخ یو

شَيْءٌ يَدَايْنِكَ فِي غَلِيظِ الْعَهْدِ وَيَكْرِسِيكَ

غیز نہ نزدی کیری ستا مضبوط لوظونوتہ او بہ کرسی ستا

الْمُكَلَّلِ بِالنُّورِ إِلَى عَرْشِكَ الْعَظِيمِ الْمَجِيدِ

کومہ چہ جہراؤ شوے دہ بہ نور سرہ عرش عظیم او جت تہ۔ او بہ

وَمَا كَانَ تَحْتَ عَرْشِكَ حَقًّا قَبْلَ أَنْ

وسیلہ دہفہ غیز چہ ستا دعرش لاندے دے بہ رشتیا سرہ مخکنے ددے

تَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَصَوْتِ الرَّعْدِ لَكَ إِذْ

نہ چہ پیدا ذکرل اسمانو نہ او بہ آواز د غور خو سرہ تا دہارہ چہ

كُنْتَ مِثْلَ مَا لَمْ تَزَلْ قَطُّ الِهَا عَرَفْتَ

تہ وے او مثل دنہ وو ہمیشہ ہیخوک معبود پیژندے شوے نے تہ

بِالتَّوْحِيدِ فَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُحِبِّينَ

سرہ د توحید نہ پس کرے ما دوستی کولو والا

الْمَحْبُوبِينَ الْمُقَرَّبِينَ الْعَارِفِينَ الْعَاشِقِينَ

او دوست کرے شوئے دنزدیکانونہ دعارفانونہ دعاشقانونہ

لَكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

تا د بارہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا دُودٌ ۝ اللَّهُمَّ

اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے مینہ کونکیہ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

رحمت اولیرے زمونیرہ سردار او مولیٰ محمد باندمے بہ شمار دہفہ

مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

چہ چاپیرہ شوے دے بہ ہفے باندمے علم ستا۔ اے اللہ رحمت او لیرے

عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحْصَاهُ

په سردار زمونیر محمد بانده او په مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه

كِتَابِكَ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

چه ضبط کره دے هغه لره کتاب ستا. اے الله رحمت او لیرے په سردار

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا نَفَذْتَ بِهِ

زمونیر او په مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه چه جاری شوه دے

قُدْرَتِكَ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

وربانده قدرت ستا. اے الله رحمت او لیرے په سردار زمونیر او

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَصَّصْتَهُ

په مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه چه خاص کره دے هغه لره

إِرَادَتِكَ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اراده ستا. اے الله رحمت او لیرے په سردار زمونیر او په

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ

مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه چه متوجه شوید هغه ته

أَمْرِكَ وَتَهْيِكَ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

امر ستا او تهی ستا. اے الله رحمت او لیرے په سردار زمونیر او مولی

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا وَسَّعَهُ سَمْعُكَ ○

زمونیر محمد بانده په شمار دهغه چه فراخواله کره دے وربانده اور بدلوستا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

ستا اے الله رحمت او لیرے په سردار زمونیر او په مولی زمونیر محمد بانده

عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ بَصَرُكَ ○ اللَّهُمَّ

په شمار دهغه چه احاطه کره ده وربانده لیدلوستا اے الله رحمت

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا

نازل کره په سردار زمونیر او په مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه

ذَكَرَهُ الذِّكْرُونَ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

چه یاد کره دے هغه لره یادونکو. اے الله رحمت نازل کره په سردار

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا غَفَلَ عَنِ

زمونیر او په مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه چه غافل شوي دي دهغه

ذَكَرَهُ الْغُفْلُونَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

دذکر نہ غفلت کونکی۔ اے اللہ رحمت اولیہیے زمونیر پہ سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ ۝

او مولیٰ محمدؐ باندے پہ شمار دشاخکو د بارا نونو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او مولا محمدؐ باندے

عَدَدَ أَوْزاقِ الْأَشْجَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

ڈاونو د پانوپہ شمار۔ اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ دَوَابِّ الْفَقَارِ ۝

سردار او مولا محمدؐ باندے دخنگل دخناوروپہ شمار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او مولا محمدؐ باندے

عَدَدَ دَوَابِّ الْبِحَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

د دریاب دخناوروپہ شمار۔ اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مِيَاهِ الْبِحَارِ ۝

سردار او مولا محمدؐ باندے د دریابونو د اوبو پہ شمار اے اللہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او مولا محمدؐ باندے پہ شمار

عَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَضَاءَ عَلَيْهِ

دھغہ خیزونوچہ شبے ورباندے تیارہ کرے دہ اوخلیدلے دہ ورباندے

النَّهَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

ورخ۔ اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او مولا

مُحَمَّدٍ بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ ۝ اللَّهُمَّ

محمدؐ باندے صبا او بیگاہ۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او مولا محمدؐ باندے پہ شمار

الرِّمَالِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

دشکو(دذرو) اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ

او مولا محمد بانده په شمار د بنخو او د سرو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے الله رحمت او ليرے زمونږ په سردار او مولا محمد بانده

رِضَاءَ نَفْسِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

په اندازه درضاد ذات ستا. اے الله رحمت او ليرے زمونږ په سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ

او مولا محمد بانده په اندازه د سپاهي د کلماتو ستا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے الله رحمت او ليرے زمونږ په سردار او مولا محمد بانده

مِلَّ سَمَوَاتِكَ وَأَرْضِكَ اللَّهُمَّ

په د کوالي د آسمانونو او د زمکې ستا. اے الله

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زِينَةً

رحمت او ليرے زمونږ په سردار او مولا محمد بانده په وزن

عَرْشِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

د عرش ستا. اے الله رحمت او ليرے زمونږ په سردار او

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَخْلُوقَاتِكَ اللَّهُمَّ

مولا محمد بانده په شمار د مخلوقا تو ستا. اے الله

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ

رحمت او ليرے زمونږ په سردار او مولا محمد بانده غوره

صَلَوَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّ الرَّحْمَةِ

رحمتو نه خپل. اے الله رحمت او ليرے د رحمت والا پيغمبر بانده

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى شَفِيعِ الْأُمَّةِ اللَّهُمَّ

اے الله رحمت او ليرے زمونږ دامت په شفاعت کونکي بانده اے الله

صَلِّ عَلَى كَاشِفِ الْغَمِّ اللَّهُمَّ صَلِّ

رحمت او ليرے د تکليفونو لړ کونکي بانده. اے الله رحمت

عَلَى مُجِبِّ الظُّلْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

او ليرے په رنډا کونکي د تيار بانده. اے الله رحمت او ليرے په

مَوْلَى التَّعَمَّةِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَوْلٰى

صاحب ذنعت باندے۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب ذ

الرَّحْمَةِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ

رحمت باندے۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب دھغہ حوض

الْحَوْضِ لَمُرُوْدٍ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

چہ تہول اُمت بہ پرے تیریری۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ

صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

صاحب ذ مقام محمود باندے۔ اے اللہ رحمت او لیبرے

عَلٰى صَاحِبِ الْوِآءِ الْمَعْقُوْدِ ۝ اَللّٰهُمَّ

پہ صاحب ذ جنلمے ودرولے شومے باندے۔ اے اللہ رحمت

صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ لِمَكَانِ الْمَشْهُوْدِ ۝

اولیبرے پہ صاحب ذ مکان چہ ورتہ حاضر کرے شومے ووهغہ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى الْمَوْصُوْفِ بِالْكَرَمِ

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ هغہ ذات چہ موصوف شویدے پہ کرم

وَالْجُوْدِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ هُوَ فِى

اوسخاوت سره۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ هغہ هستی باندے چہ هغہ پہ

السَّمٰوٰتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَفِى الْاَرْضِ

اسمان کنبے زمونیر سردار محمود دے۔ او پہ زمکہ کنبی زمونیر

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ

سردار محمد دے۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب دمہر نبوت

الشَّامَةِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى صَاحِبِ الْعِلْمِ

باندے۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب ذ نخبے باندے اے اللہ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى الْمَوْصُوْفِ بِالْكَرَامَةِ ۝

رحمت او لیبرے پہ هغہ ذات چہ موصوف شومے دے پہ بزرگی سره اے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى الْمَخْصُوْصِ بِالرَّعَايَةِ ۝

اللہ رحمت او لیبرے پہ هغہ ذات چہ خاص کرے شویدے پہ سرداری سره

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مَنْ كَانَ تَظْلُهُ الْعِمَامَةُ ۝

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ هغہ ذات چہ شورے بہ ورباندے کولو ورنخ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ كَانَ يَرَى مَنْ

اے اللہ رحمت او لیجے پہ ہفتہ ذات چہ لیدل بہ نے ہفتہ شوک چہ ترینہ بہ

خَلْفَهُ كَمَا يَرَى مَنْ أَمَامَهُ ○ اللَّهُمَّ

روستوو و خنگہ چہ بہ برز لیدل ہفتہ شوک چہ ترینہ مخکنے بہ ووائے اللہ رحمت

صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ الْمَشْفُوعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ○

اولیجے پہ شفاعت کونکی او شفاعت قبول کرے شوی باندمے پہ ورخ دقیامت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الصَّرَاةِ ○

اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب دعا جز والی اوزاری باندمے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الشَّفَلَةِ ○

اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب ڈ شفاعت باندمے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لَوْ سَيْلَةٍ ○

اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب ڈ وسیلے باندمے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لَفْزَيْلَةٍ ○

اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب دفضیلے باندمے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ ○

اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب داوجے مرتبے والا باندمے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لَهْرَاوَةِ ○

اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب دھمسا باندمے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ التَّعْلِينِ ○

اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب ڈ نعلینو باندمے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْحُجَّةِ ○

اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب دحجت باندمے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لُبْرُهَانَ ○


اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب ددلیل باندمے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ السُّلْطَانِ ○

اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب ڈ غلبے باندمے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ التَّاجِ ○

اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب ڈ تاج باندمے



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بَكَى

لمعام. اے اللہ رحمت او لیبرے پہ ہفہ چاچہ ڈرلی وو

إِلَيْهِ الْجَدْعُ وَحَنٌّ لِفِرَاقِهِ ○ اللَّهُمَّ

ہفہ تہ د کجورے تنے او ڈرائے کرے دہ پہ فراق دہفہ. اے اللہ

صَلِّ عَلَى مَنْ تَوَسَّلَ بِهِ طَيْرُ الْفَلَاقَةِ ○

رحمت او لیبرے پہ ہفہ چاچہ وسیلہ نیولے دہ پہ ہفہ سرہ دخنکل مارغانو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَبَّحَتْ فِي كَفِّهِ

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ ہفہ چاچہ تسبیح ویلے وہ پہ ورغوی دہفہ

الْحِصَاةُ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ تَشَفَّعَ

کنبے کورت کانرو. اے اللہ رحمت او لیبرے پہ ہفہ چاچہ سفارش لہ راغلہ

إِلَيْهِ الطَّبِيُّ بِأَفْصَحِ الْكَلَامِ ○ اللَّهُمَّ

ورته ہوسے پہ فصیح کلام سرہ. اے اللہ رحمت او لیبرے

صَلِّ عَلَى مَنْ كَلَّمَهُ الصَّبُّ فِي مَجْلِسِهِ

پہ ہفہ چاچہ خبرے ورسرہ کرے دی سمسارے پہ مجلس دہفہ کنبے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لَيْعْرَاجٍ ○

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب د معراج باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لُقْضَيْبٍ ○

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب د شمشیر باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَاكِبِ النَّجِيبِ ○

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ سور د اصیلے اوبنے باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَاكِبِ لُبْرَاقٍ ○

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ سور د بُراق باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُخْتَرِقِ السَّبْعِ الطَّبَاقِ ○

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ تیریلونکی د او طبقو د آسمان باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ فِي جَمِيعِ الْأَنَامِ ○

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ شفاعت کونکی دتول مخلوق باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَبَّحَتْ فِي كَفِّهِ

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ ہفہ چاچہ تسبیح ویلے وہ پہ ورغوی دہفہ کنبے

مَعَ أَصْحَابِهِ الْأَعْلَامِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

سرہ دخیلو بزرگانو. اے اللہ رحمت او لیجے

عَلَى الْبَشِيرِ النَّذِيرِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

بہ زبیر و رکونکی او یرونکی باندے. اے اللہ رحمت او لیجے بہ

السَّراجِ الْمُنِيرِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

دیوے رویشانہ باندے. اے اللہ رحمت او لیجے بہ ہفہ ہستی

شَكَرَ إِلَيْهِ الْبَعِيرُ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

چہ اویں ورتہ شکایت کرے وو. اے اللہ رحمت او لیجے بہ ہفہ چا

مَنْ تَفَجَّرَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ الْمَاءِ

چہ روانے شوے وے د مینخ دکوتو دھغوی نہ اوجے

التَّيْرِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى لَطِيفِ الْمَطْهَرِ

صفا. اے اللہ رحمت او لیجے بہ پاک او پاک شوے باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ الْأَنْوَارِ ○ اللَّهُمَّ

اے اللہ رحمت او لیجے بہ نورونو بہ نور باندے. اے اللہ

صَلِّ عَلَى مَنْ انْشَقَّ لَهُ الْقَمَرُ ○ اللَّهُمَّ

رحمت او لیجے بہ ہفہ ہستی چہ دوہ تکرے شوے وہ ہفہ دبارہ سپورمی

صَلِّ عَلَى الطَّيِّبِ الْمَطِيبِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

اے اللہ رحمت او لیجے بہ خوشبودار پاکیزہ باندے. اے اللہ رحمت او

عَلَى الرَّسُولِ الْمُقَرَّبِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

لیجے بہ رسول مقرب باندے. اے اللہ رحمت او لیجے بہ

الفَجْرِ السَّاطِعِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّجْمِ

صبا رنرا خورونکی باندے. اے اللہ رحمت او لیجے بہ ستوری

الثَّاقِبِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْعُرْوَةِ الْوُثْقِ

خلیدونکی باندے. اے اللہ رحمت او لیجے بہ دستاویز محکم باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَذِيرِ أَهْلِ الْأَرْضِ ○

اے اللہ رحمت او لیجے بہ یرونکی دزمکہ اوسیدونکو باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ يَوْمَ الْعَرْشِ ○

اے اللہ رحمت او لیجے بہ شفاعت کونکی دورخ د قیامت باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى السَّاقِي لِلنَّاسِ مِنْ

اے اللہ رحمت او لیجے پہ شگونکی پہ خلقو باندھے ذ

الْحَوْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ

حوض نہ. اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب ذجھنڈے

لِوَاءِ الْحَمْدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُشَمَّرِ

دحمد باندھے. اے اللہ رحمت او لیجے پہ خیزونکی دلستوری

عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

دکوش ذ ست نہ. اے اللہ رحمت او لیجے پہ عمل کونکی

الْمُسْتَعْمِلِ فِي مَرْضَاتِكَ غَايَةَ الْجَهْدِ

ستاپہ رضامندی طلب کولوکنے پہ دیر کوشش سرہ اے اللہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ خَاتَمِ

رحمت او لیجے پہ نبی نبوت ختمونکی باندھے. اے اللہ رحمت او لیجے

عَلَى الرَّسُولِ خَاتَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُصْطَفَى

پہ رسول نبوت ختمونکی باندھے. اے اللہ رحمت او لیجے پہ مصطفیٰ

الْقَائِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ أَبِي الْقَاسِمِ

قائم باندھے. اے اللہ رحمت او لیجے پہ خپل رسول ابو القاسم باندھے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْإِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اے اللہ رحمت او لیجے پہ صاحب دنخجوباندھے. اے اللہ رحمت او لیجے

عَلَى صَاحِبِ الدَّلَالَاتِ اللَّهُمَّ

پہ صاحب ذ لار خود لو باندھے. اے اللہ رحمت

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ إِشَارَاتِ اللَّهُمَّ

او لیجے پہ صاحب داشاراتو باندھے. اے اللہ

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لِكْرَامَاتِ اللَّهُمَّ

رحمت او لیجے پہ صاحب کراماتو باندھے. اے اللہ

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لِعَلَامَاتِ اللَّهُمَّ

رحمت او لیجے پہ صاحب ذ علاماتو باندھے. اے اللہ

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْبَيِّنَاتِ اللَّهُمَّ

رحمت او لیجے پہ صاحب ذ دلیلونو باندھے. اے اللہ



صَلِّ عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ يُرْحَمُ

رحمت اولیبرے پہ ہفہ چاہاندچہ پہ ہفہ باندے ددرود لیکلوسرہ رحم

الْكَبَارُ وَالصَّغَارُ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

کولے شی پہ مشرانو او کشرانو باندے. اے اللہ رحمت اولیبرے پہ ہفہ

عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَتَنَعَّمُ فِي هَذِهِ

چاہاندے چہ پہ ہفہ باندے درود لیکلوسرہ نعمتونہ حاصلیری مونیرتہ

الدَّارِ وَفِي تِلْكَ الدَّارِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

پہ دے جہان کنے ہم او پہ ہفہ جہان کنے ہم. اے اللہ رحمت اولیبرے

عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَنَالُ رَحْمَةً

پہ ہفہ چاہاندے چہ پہ ہفہ باندے درود لیکلوسرہ رسیبری رحمت

الْعَزِيزِ الْعَقَّارِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَنُصُورِ

د غالب بخینونکی اللہ. اے اللہ رحمت اولیبرے پہ مدد کرے شوی

الْمُؤَيَّدِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُخْتَارِ

تائید کرے شوی باندے. اے اللہ رحمت اولیبرے پہ غورہ کرے شوی

الْمُسَجَّدِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

عزت ور کرے شوی باندے. اے اللہ رحمت اولیبرے زمونیر پہ سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

او مولی محمد باندے. اے اللہ رحمت اولیبرے پہ ہفہ

مَنْ كَانَ إِذَا مَشَى فِي الْبَرِّ الْأَقْفَرِ

چاہاندے چہ کلہ بہ روان وو پہ او چو میدانونو کنے

تَعَلَّقَتْ الْوَحْشُ بِأَذْيَالِهِ ○ اللَّهُمَّ

نواختل بہ وحشی خنارود ہغوی لمنو سرہ. اے اللہ رحمت اولیبرے

صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

پہ ہغوی باندے او ہغوی پہ آل او اصحابو باندے او سلام اولیبرے دیردیر

تَسْلِيمًا ○ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

سلام. او تبول تعریفونہ خاص اللہ دہارہ دی چہ دتبولو عالمونو بالونکے دے

# اِبْتِداءُ الرَّبِيعِ الثَّانِي

دویم ربع شروع

اَحْمَدُ لِلّٰهِ عَلَىٰ حَلِيْمِهِ بَعْدَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ

تبول تعریفونه الله لره دي په حلم دهغه پس د علم دهغه او په

عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ

عفو په دهغه پس د قدرت دهغه. اے الله زه پناه نیسم

بِكَ مِنَ الْفَقْرِ اِلَّا اِلَيْكَ ۝ وَمِنَ الذَّلٰلِ

په تاسره دمحتاجی نه مکرستا طرفه. او دذلیل والی نه

اِلَّا لَكَ وَمِنَ الْخَوْفِ اِلَّا مِنْكَ ۝ وَ

مکر ستا طرفه او د ویرے نا مکر دتا نه. او

اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَقُوْلَ زُوْرًا ۝ اَوْ اَعْشٰ

پناه غواړم په تاسره چه اووایم دروغ خبره یازتکاب او کرم

فُجُوْرًا ۝ اَوْ اَكُوْنَ بِكَ مَغْرُوْرًا ۝ وَ

دبندو کارونو یا شمه زه پتا سره مغرور او

اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَمَاتَةِ الْعَدَاۗءِ وَعُضَالِ

پناه غواړم په تاسره دخوشالیدلو دشمنانونه اودسختی

الدَّاءِ وَخَيْبَةِ الرَّجَاۗءِ وَزَوَالِ النِّعْمَةِ وَ

بیماری نه اودآمیلندۍ موندلونه اود نعمت دزوال نه او

فِجَاءَةِ النِّقْمَةِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

ناسانی مصیبت دایم الله رحمت اولیرے په سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ

محمد باندمے او سلام اولیرے په هغه باندمے او بدله ور کرے هغوی ته زمونیر نه

اَهْلُهُ حَبِيْبِكَ ثَلَاثًا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

کومه چه لاته ده هغه سره ستاحیوب دے (درے خل دلواي) اے الله رحمت اولیرے

سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاجْزِهِ عَنَّا

زمونیر په سردار ابراهیم باندمے او سلام پرے اولیرے او بدله ور کرے هغوی ته زمونیر نه

مَا هُوَ اَهْلُهُ خَلِيْلِكَ ثَلَاثًا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

کومه چه لاته ده هغوی سره. ستاخلیل دے (درے خل) اے الله رحمت اولیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

زمونیر پہ سردار محمد باندے او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندے

كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحَّمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى

خنکے چه ددرو دلکے دے اور رحمت دلکے دے او برکت دلکے دے

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ

زمونیر پہ سردار ابراهیم باندے پہ تو لو عالمو کنے بیشکے ته ستائے

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَا

شوعے او دلوئی والائے . به شمار دمخلوق خیل او به رضامندی ذات

نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَوِدَادَ كَلِمَاتِكَ

خیل او به برابر وزن دعرش خیل . او به مقدار دسیاهی دکلماتو خیلو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اے اللہ درود او لیجے زمونیر آ سردار محمد باندے به شمار

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

دهغه چاچه درودے لیکلے دے به هغه باندے . اے اللہ درود او لیجے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

زمونیر پہ سردار محمد باندے به شمار دهغه چاچه درودے نه دے لیکلے به هغه

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

باندے اے اللہ درود او لیجے زمونیر پہ سردار محمد باندے به شمار دهغه

مَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

چه درود لیکلے شوعے دے به هغه باندے . اے اللہ درود او لیجے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ أضعاف ما صَلَّيْتَ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ

محمد باندے دو چند دهغه چه درود لیکلے شوعے دے به هغه باندے . اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ

درود او لیجے زمونیر پہ سردار محمد باندے خنکے چه هغه ددے اهل دے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

اے اللہ درود او لیجے زمونیر پہ سردار محمد باندے خنکے

تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ ۝

ته خوبنوعے او راضی کیجے دهغه نه

دَآكِرَالْحَزْبِ ۱۶۴

الْحَزْبُ الثَّالِثُ

مُغْلَبُورَم حَزْب دِجَار شَنِسِ دُورِخِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت او لیرے پہ روح د سردار زمونیرل چہ محمد دے

فِي الْاَرْوَاحِ وَعَلَى جَسَدِهِ فِي الْاَجْسَادِ

پہ ارواحانو کنبے او پہ بدن دھغوی پہ بدنونو کنبے

وَعَلَى قَبْرِهِ فِي الْقُبُورِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ

اوپہ قبر دھغوی پہ قبرونو کنبے اوپہ آل دھغوی اوپہ اصحابو دھغوی

وَسَلِّمْ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اوسلام پرے اولیرے اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد

كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذُّكْرُونَ ۝ اَللّٰهُمَّ

باندمے کلہ چہ یا ذوی ہغہ لره یا ذونکی . اے اللہ

صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَلَّمَا غَفَلَ

رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندمے . ہر کلہ چہ غفلت کوی

دَآكِرَالْحَزْبِ ۱۶۵

الْحَزْبُ الثَّالِثُ

عَنْ ذِكْرِهِ الْغَفْلُونَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

دیاد دھغہ نہ غفلت کونکی . اے اللہ رحمت اولیرے

وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

اوسلام اولیرے او برکت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندمے چہ نبی دے

الرَّمِيِّ ۝ وَاَزْوَاجَهُ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ

آمی دے او دھغوی پہ بیبیانو باندمے چہ د مسلمانانو میندمے دی

وَذُرِّيَّتِهِ ۝ وَاَهْلَ بَيْتِهِ صَلَوةً وَسَلَامًا

اودھغوی پہ اولاد باندمے او دھغوی پہ اهل بیتو باندمے داسے درود او سلام

لَا يُحْصَى عَدَدُهُمَا وَلَا يُقْطَعُ مَدَدُهُمَا ۝

چہ نشی پورہ کیدمے شمار دھغہ اونشی پریکیدمے زیاتوالے دھغے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اے اللہ رحمت او لیرے زمونیر پہ سردار محمد باندمے پہ شمار

مَا اَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ ۝ وَاَحْصَاهُ كِتَابُكَ

دھغے چہ احاطہ پرے کرے وی علم ستا او محفوظ کرے وی کتاب ستا

دلائل نبوت ۱۶۶ الحزب الثالث

صَلَاةٌ تَكُونُ لَكَ رِضَةً وَرِحْمَةً أَدَاءً  
داسے درود چہ شی تادپارہ راضی کیدل اوشی دحق دھغہ دپارہ ادا کیدل

وَأَعْطَاهُ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَاللَّحِجَّةَ  
او ورکھے ورلہ وسیلہ اوفضیلت او درجہ

الرَّقِيعَةَ وَابْعَثَهُ اللَّهُمَّ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ  
او چتہ اوڑے لیبے ہغہ مقام محمود تہ چہ تائے

الَّذِي وَعَدْتَهُ وَأَجْرَهُ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ  
ورسره وعدہ کرے دہ اوبدلہ ورکھے ورلہ زمونیر دطرفہ دکومے چہ

وَعَلَىٰ جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ  
ہغہ لائق دے او بہ تولو پیغمبرانو اورونو دھغوی

الصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ  
او بہ صدیقانو او شہیدانو او نیک بختانو باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ  
اے اللہ رحمت اولیبے زمونیر بہ سردار محمد باندے اوراکوڑے کرے

الحزب الثالث ۱۶۴ دلائل نبوت

الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ  
داسے منزل تہ چہ مقرب وی بہ ورخ دقیامت. اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ اللَّهُمَّ تَوَجَّهْ  
رحمت اولیبے زمونیر بہ سردار محمد باندے. اے اللہ عطا کرے ہغوی تہ

بِتَاجِ الْعِزِّ وَالرِّضَا وَالْكَرَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ  
تاج دعزت او رضامندی او عزتمندی. اے اللہ

أَعْطِ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ  
ورکھے زمونیر سردار محمد تہ غورہ دھغے نہ چہ سوال کرے دے ہغوی

لِنَفْسِهِ وَأَعْطِ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ  
دخپل خان دپارہ او ورکھے زمونیر سردار محمد تہ غورہ دھغہ نہ

مَا سَأَلَكَ لَهُ أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِكَ وَأَعْطِ  
چہ تانہ سوال کرے دے یوتن د مخلوق ستانہ او ورکھے

لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا أَنْتَ مَسْئُولٌ  
زمونیر سردار محمد تہ غورہ دھغے نہ چہ تانہ نے سوال شوے دے

لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

هغوی دباره دقیامت ترورخ پورے۔ اے اللہ رحمت اولییرے زمونیر به

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَيِّدِنَا آدَمَ وَسَيِّدِنَا

سردار محمد باندے اوزمونیر به سردار آدم باندے اوزمونیر به سردار

نُوحٍ وَسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَيِّدِنَا مُوسَى

نوح باندے اوزمونیر به سردار ابراهیم باندے اوزمونیر به سردار موسی باندے

وَسَيِّدِنَا عِيسَى وَمَا بَيْنَهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

اوزمونیر به سردار عیسی باندے او کوم چه دھغوی په مینخ کنے دی پیغمبران

وَالْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ

اورسولان رحمتونه د اللہ دی اوسلامونه دھغه دوی به هغوی

عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ثَلَاثًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

تولو باندے۔ درے خل د اوائی۔ اے اللہ درود اولیرے به

عَلَى آيِنَا سَيِّدِنَا آدَمَ وَأُمَّنَا سَيِّدَتِنَا

پلار زمونیر به سردار آدم باندے اوزمونیر به مور اوزمونیر به سردار

حَوَّاءَ صَلَوَاتُكَ وَأَعْظِمَا مِنْ

حوا بی بی باندے درود د ملاتکو او ورکھے دوارو له درضا مندی نه

الرِّضْوَانِ حَتَّى تُرَضِّيَهُمَا وَأَجْزِيَهُمَا ۝ اللَّهُمَّ

تردے پورے چه راضی کرے دوارو لره اوبدله ورکھے دوارو له اے اللہ

أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهِ أَبَاوَأُمَّعَنَ وَ

غوره دھغے نه چه تابدله ورکھے ده په هغے سره پلار اومور له دھغوی

لَدَيْهِمَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

دبجو دطرفنه اوزمونیر به سردار میکائیل باندے اوس زمونیر به سردار

جَبْرِيْلَ وَسَيِّدِنَا مِيكَائِيْلَ وَسَيِّدِنَا

جبرائیل باندے۔ اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر به سردار

إِسْرَافِيْلَ وَسَيِّدِنَا عِزْرَائِيْلَ وَحَمَلَةَ

اسرافیل باندے اوزمونیر به سردار عزرائیل باندے او به او چتونکو

الْعَرْشِ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ وَالْمُقَرَّبِينَ

د عرش باندے او په تولو فرشتو او مقربینو باندے

وَعَلَىٰ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَواتُ اللَّهِ

او به تولو نبيان او مرسلانو باندے. رحمتو نه دالله

اللَّهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ثَلَاثًا ۝

او سلامونه دهغه دپه هغوی تولو باندے وي (دے کرت دے وواتي)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةَ

اے الله رحمت اولیبرے زمونیر په سردار محمد باندے په شمار دهغه

مَا عَلِمْتَ وَمِمَّا مَا عَلِمْتَ وَزِنَةَ مَا

چه تا ته معلوم دي او په ډکوالي دهغه چه تا ته معلوم دي او

عَلِمْتَ وَمِمَّا أَدَكَلِمَاتِكَ ۝ اللَّهُمَّ

په وزن دهغه چه تاته معلوم دي او په مقدار دسیاهی دکلماتو ستا. اے الله

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً مَوْصُولَةً

رحمت اولیبرے زمونیر په سردار محمد باندے داسے رحمت چه یو خانے

بِالْمَزِيدِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

شوعے وي زیاتوالي سره. اے الله رحمت اولیبرے زمونیر په سردار

مُحَمَّدٍ صَلَوةً لَا تَنْقَطِعُ أَبَدًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

محمد باندے داسے رحمت چه نه کت کیری ابدالابا د پورے او نه فنا

تَبِيدُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کیری. اے الله رحمت او لیبرے زمونیر په سردار محمد باندے ستا

صَلَاةِكَ الَّتِي صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هغه رحمت چه تاور باندے لیکلے دے او سلام اولیبرے زمونیر په

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَلَامِكَ الَّذِي

سردار محمد باندے ستا هغه سلام کوم چه تالیکلے دے په هغوی باندے

سَلَّمْتَ عَلَيْهِ وَأَجْرُهُ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ

اوبدلله ورله ورکړے زمونیر دطرفنه د کومے چه هغه اهل دے اے الله رحمت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

او لیبرے زمونیر په سردار محمد باندے داسے رحمت چه راضی کړي

تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَتَرْضَىٰ بِهَا عَسَا

تالره او ته راضی کړے هغه لره او راضی شے ته دهغه په وجه زمونیر نه

مَا هُوَ أَهْلُهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او جزاورد کرے زموں پر دظرفہ دکومے چہ ہفہ اهل دے اے اللہ رحمت اولیوں زموں پر

مُحَمَّدٍ بِحَرَائِمْ نَوَارِكِ وَمَعْدِنِ أَسْرَارِكِ

سردار محمداں لے شوک چہ دریاب دے دنوار و ستا اور معدن دے دراز و نوستا

وَلِسَانِ مَجْمَعَتِكَ وَعُرْوَسِ مَمْلَكَتِكَ

او ژبہ ده د حجت ستا او خلمے دے د مملکت ستا

وَأَمَامِ حَضْرَتِكَ وَطِرَازِ مُلْكِكَ وَ

اوامام دے د دربار ستا او نقس دے د ملک ستا او

خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَطَرِيقِ شَرِيعَتِكَ

خزانے دی درحمت ستا او لاره ده د شریعت ستا

الْمُتَلَدِّذِ بِتَوْحِيدِكَ إِنْسَانِ عَيْنِ

لذت موندونکے دے د توحید ستا کاکے ده دستر گو

الْوَجُودِ وَالسَّبَبِ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ عَيْنِ

دموجوداتو او سبب دے پہ ہر موجود کینے سترگہ ده

أَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُورِ

داوچت مخلوق ستا ورائدے کیدونکے دے ستا دنور پہ زبر اسره داسے

ضِيَائِكَ صَلَوةٌ تَدُومٌ يَدِ وَأَمِكَ وَ

رحمت چہ ہمیشہ اوسے ستا پہ ہمیشہ والی سرہ او باقی پاتے وی

تَبْقَى بِبَقَائِكَ لَا مُنْتَهَى لِهَادُونَ عِلْمِكَ

ستا پہ باقی والی سرہ چہ نہ وی انتہا ہفے لره سوا ذعلم ستانہ داسے

صَلَاةٌ تَرْضِيكَ وَتَرْضِيهِ وَتَرْضِي بِهَا

رحمت چہ تراضی کرے اوتہ نے راضی کرے اوراضی شے پہ ہفے سرہ

عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

زموں پر نہ اے د مخلوقاتو پالونکیہ اے اللہ رحمت اولیوں

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ

زموں پر سردار محمد باندے پہ شمار دھفے چہ پہ علم داللہ

اللهِ صَلَاةٌ دَائِمَةٌ يَدِ وَأَمِ مُلْكِ اللَّهِ

کینے دی داسے رحمت چہ ہمیشہ وی پہ ہمیشہ والی ذملک داللہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

أصَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا

إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَةَ نَفْسِكَ وَزِينَةَ

عَرْشِكَ وَمَدَادِ كَلِمَاتِكَ وَعَدَدِ مَا

دَعَاكَ بِهِ خَلْقُكَ

دعای خیل او به مقدار دسیاهی دکلماتو خیلو او به شمار دهغه

ذَكَرَكَ بِهِ خَلْقِكَ فِيمَا مَضَى وَعَدَدِ مَا هُمْ

ذَكَرُوا نَفْسَهُمْ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ

شَهْرٍ وَجُمُعَةٍ وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسَاعَةٍ

مِنَ السَّاعَاتِ وَشَجْرٍ وَنَفْسٍ وَطَرَفَةٍ

وَلَمَحَّةٍ مِنَ الْآبِدِ إِلَى الْآبِدِ وَأَبَادِ

الدُّنْيَا وَأَبَادِ الْآخِرَةِ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ

لَا يَنْقُطُ أَوَّلُهُ وَلَا يَنْقُذُ آخِرُهُ ○

دعای خیل او به مقدار دنظر کولو دزمانے ابتدانه دزمانے آخره پورے

دعای خیل او به مقدار دنظر کولو دزمانے ابتدانه دزمانے آخره پورے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلٰى

اے اللہ رحمت او لیجے زمونیر پہ سردار محمدؐ باندے پہ قدر

قَدْرٍ رَحْمَتِكَ فِيْهِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

د محبت سرہ ہفہ سرہ۔ اے اللہ رحمت او لیجے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلٰى قَدْرٍ رِعْنَابَتِكَ فِيْهِ ۝

سردار زمونیر محمدؐ باندے پہ قدر دعنائت سرہ ہفہ سرہ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَقًّا

اے اللہ رحمت او لیجے زمونیر پہ سردار محمدؐ باندے لائق

قَدْرًا وَمَقْدَارًا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

دقدر دھفہ او دمقدار۔ اے اللہ رحمت او لیجے زمونیر پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُنَجِّينَا بِهَا مِنْ

سردار محمدؐ باندے داسے رحمت چہ نجات را کرے مونیر تہ پہ ہفہ سرہ

جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاَفَاتِ وَتَقْضِيْ لَنَا

دتولو ویرو او آفتونونہ اوپورہ کرے تہ مونیر دپارہ

بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا

دھفہ پہ وجہ تول حاجتونہ اوچہ پاک کرے تہ مونیر لہ پہ ہفہ سرہ

مِنْ جَمِيْعِ السِّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا اَعْلٰى

دتولو بدیانونہ اوچہ پور تہ کرے تہ مونیر پہ ہفہ سرہ پہ اعلیٰ

الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَا الْغَايَاتِ

درجوسرہ او چہ اور سوے مونیر پہ ہفہ سرہ آخری نہایتونہ

مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِيْ الْحَيٰوةِ وَبَعْدَ

د تولو نیکو نہ پہ ژوند کنے ہم او روسو

السَّمَاوَاتِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

دمرگ نہ ہم۔ اے اللہ رحمت او لیجے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ صَلَوةً الرِّضَىٰ وَارْضَ عَنِ

محمدؐ باندے داسے رحمت چہ درضا باعث وی او راضی شے د

اَصْحَابِهِ رِضَاءَ الرِّضَىٰ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اصحابو دھفوی نہ درضامندی پہ رضا سرہ۔ اے اللہ رحمت او لیجے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ لِدَخْلِكَ

په سردار زموڼيز محمد باندې چه ډمخکښې نه دې مخلوق دپاره نور دهغوی

نُورُهُ وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ عَدَدُ

اور رحمت دې عالمونو دپاره ظهور دهغوی په شمار دهغه چاچه تیر شوي

مَنْ مَضَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِيَ وَ

دې دمخلوق ستانه او څوک چه باقي دي او څوک چه نیک بخت شوي دي

مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلَوةٌ

په هغوی کښې او څوک چه بدبخت شوي دي داسې رحمت چه راکير

تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَتُجِيطُ بِالْحَدِّ صَلَوةٌ

کړې شمار لره او احاطه او کړې په حد باندې داسې رحمت چه نه

لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا مُنْتَهَى وَلَا انْقِضَاءً

وي غايست هغه لره او نه وي انتها او نه وي تماميدل داسې رحمت

صَلَوةٌ دَائِمَةٌ يَدُ وَاِمْكٍ وَعَلَى إِلَهٍ وَ

چه هميشه وي په هميشه والي ستاسره او په آل دهغوی او

صَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مِثْلَ ذَلِكَ

په اصحابو دهغوی او اوليېرې سلام پشان ددې

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے الله رحمت او ليرې زموڼيز په سردار محمد باندې دچاچه

مَلَأَتْ قَلْبَهُ مِنْ جَلَالِكَ وَعَيْتَهُ

زړه ډک کړې دې تا دخپل جلال نه او سترگه دهغوی دخپل جمال

مِنْ جَمَالِكَ فَأَصْبَحَ فَرِحًا مُؤَيَّدًا مَنصُورًا

نه نو شولو خوشاله مدد موندونکې فتحه موندونکې او دهغوی په آل

وَعَلَى إِلَهٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَالْحَمْدُ

باندې او دهغوی په اصحابو باندې او سلام اوليېرې او ټول تعريف

لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الله دپاره دې په دې باندې اے الله رحمت اوليېرې زموڼيز په سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَوْرَاقِ الزَّيْتُونِ

او زموڼيز په مولا محمد باندې په شمار د پانړو د زيتون

وَجَمِيعِ الثَّمَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او دتولو میوو. اے اللہ رحمت او لبرے زمونیر په سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ ۝

او مولا محمد بانده په شمار دهغه چه شوي دي او كيدونكي دي

وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَضَاءُ ۝

اوپه شمار دهغه چه تياره كره ده وربانده شه او رنرا شوه ده

عَلَيْهِ النَّهَارُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

وربانده ورځ. اے اللہ رحمت او لبرے زمونیر په سردار او مولا محمد

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ

بانده او دهغوی په آل بانده او دهغوی په بیبانو باندي او دهغوی په اولاد

وَذُرِّيَّتِهِ عَدَدَ أَنْفَاسِ أُمَّتِهِ ۝ اللَّهُمَّ

بانده په شمار دسه گانو دامت دهغوی. اے اللہ په برکت درو

بِبَرَكَاتِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اجْعَلْنَا بِالصَّلَاةِ

دسره په هغوی بانده او کرحو مونیږه په هغوی بانده درو دلکلو سره

عَلَيْهِ مِنَ الْفَائِزِينَ وَعَلَى حَوْضِهِ

د کامیابونکونه او په حوض دهغوی بانده

مِنَ الْوَارِدِينَ الشَّارِبِينَ وَبِسُنَّتِهِ

تیریدو نکو سکو نکو نه او دهغوی په طریقے بانده

وَطَاعَتِهِ مِنَ الْعَامِلِينَ ۝ وَلَا تَحُلْ

او دهغوی په طاعت بانده عمل کونکونه. او پرده مذجوه

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

زمونیر او دهغوی تر مینځه د قیامت په ورځ اے رب العالمینه

وَاعْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ

او اوبخنه مونیره او زمونیره مورپلار او ټول مسلمانان

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

او ټول تعریفونه الله دپاره دي چه پالونکي دتولو عالمونو د

# ابْتِدَاءُ الثَّلَاثِ الثَّانِي

دویم ثلث شروع

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

ای الله رحمت او لبرے او سلام او برکت او لبرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَرِيمٍ

محمد باندے او پہ آل دسردار زمونیر محمد باندے چه دیر عزتمندے

خَلْقِكَ وَسِرَاجِ أَفْقِكَ وَأَفْضَلِ قَائِمِي

ستا پہ مخلوق کنے او چراغ دے دکنارے دآسمان ستاغوره قائمے

بِحَقِّكَ الْمَبْعُوثِ بِتَيْسِيرِكَ وَرَفْقِكَ

پہ حق ستا لیکلے شوم دے ستاپہ اسانولو سره او ستاپہ نرمی سره

صَلَاةٍ يَتَوَالِي تَكَرُّرُهَا وَتَلَوُّهُ عَلَى

داسے رحمت او لبرے چه پرله پسے وی تکرار دھغے او خلیری پہ

الْأَكْوَانِ أَنْوَارُهَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

موجوداتو باندے أنوار دھغے ۝ ای الله رحمت او لبرے

وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝

او سلام او برکت او لبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ مَدْرَجٍ

او زمونیر دسردار محمد په آل باندے کوم چه غوره صفت کرے شوم دے

بِقَوْلِكَ وَأَشْرَفِ دَاعٍ لِلْإِعْتِصَامِ

ستاپه قول سره اولونے شرافت والابلونکے دے دپاره قضاوتے نیولو

بِحَبْلِكَ وَخَاتِمِ أَنْبِيَائِكَ وَسُرِّكَ

دزی ستا او خاتم دے دنیا ستا او د رسولانو ستا داسے رحمت او

صَلَاةٍ تَبْلِغُنَا فِي الدَّارَيْنِ عَمِيمٍ فَضْلِكَ

لبرے چه ته او رسوے مونیره په دوارو جهانو کنے عام فضل خیل ته

وَكَرَامَةِ رِضْوَانِكَ وَوَصْلِكَ ۝

او کرامت د رضامنندی خیلے او دوصال خیل ته ای الله

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

رحمت او لبرے او سلام او برکت او لبرے زمونیر په سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَرِيمٍ

محمد باندے او پہ آل زمونیر د سردار محمد باندے چه ڈیر عزتمند دے

الْكَرْمَاءِ مِنْ عِبَادِكَ وَأَشْرَفِ الْمُنَادِينَ

پہ تلو عزتمند کنیے د بندگانو ستانہ او ڈیر شرافت والادے پہ ندا کونکو کنیے

لِطُرُقِ رَشَادِكَ وَسِرَاجِ أَقْطَارِكَ وَيَا دِرْكَ

ستادهدایت لارے طرفتہ او چراغ دے دزمکود کنار وستا او ذبنار یوستا

صَلْوَةً لَا تَقْفُ وَلَا تَبِيدُ تُبَلِّغُنَا بِهَا كَرَامَةَ

داسے رحمت پرے اولیرے چه نہ فنا کیری او نہ ختمیری چه او رسوے

الْمَزِيدِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ

مونیرہ ہفے سرہ زبانی عزت تہ اے اللہ رحمت اولیرے او سلام او برکت

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

او لیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ الرَّفِيعِ مَقَامُهُ الْوَاجِبُ تَعْظِيمُهُ

محمد باندے چه او چت دے مقام دہفہ او واجب دے تعظیم دہفہ

وَاحْتِرَامُهُ صَلْوَةٌ لَا تَنْقَطِعُ أَبَدًا وَلَا

او احترام دہفہ داسے رحمت چه نہ منقطع کیری ہیجرے او نہ

تَقْنِي سَرْمَدًا وَلَا تَنْحَصِرُ عَدَدًا ۝

فانی کیری ہمیشہ وی او نہ وی منحصر پہ شمار کنیے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اے اللہ رحمت او لیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

آل د سردار زمونیر محمد باندے خنگہ چه تارحمت لیرے دے زمونیر پہ سردار

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَالْغُلَامِينَ

ابراہیم باندے او پہ آل د سردار زمونیر ابراہیم باندے پہ عالمونو کنیے

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ۝ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىٰ

بیشک تہ ڈیر ستائیلے شوے د بندگی والائے اورحمت اولیرے اے اللہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے

كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ

خو پور سے چہ یادوی ہفہ لره یادونکی او غفلت کوی ذکر

ذِكْرِهِ الْغَفْلُونَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

دھفہ نہ غفلت کونکی۔ اے اللہ رحمت او لیجے بہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے

وَأَرْحَمَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَأَوْلَ سَيِّدِنَا

اورحم او کرے بہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

محمد باندے او برکت او لیجے بہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحَّمْتَ

آل د سردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ تادرودلیگلے دے اورحمت

وَبَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى

د لیکلے دے اوبرکت دلیگلے دے پہ سردار زمونیر ابراهیم باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

آل د سردار زمونیر ابراهیم باندے بیشکہ تہ ذیر ستائیلے شومے نے د بزرگی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

والاے اے اللہ رحمت او لیجے بہ سردار زمونیر محمد باندے چہ نبی دے

الْأُمِّيِّ الطَّاهِرِ الْمَطْهَرِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

آمی دے، پاک دے، پاک کرے شومے دے او پہ آل دھفوی او سلام او لیجے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ خَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ

اے اللہ رحمت او لیجے بہ ہفہ چاچہ تا ختم کرے دے بہ ہفہ باندے رسالت

وَأَيَّدْتَهُ بِالنُّصْرَةِ الْكَوْثَرِ وَالشَّفَاعَةَ

او دھفہ تائید دکرے دے بہ امداد سرہ او پہ کوثر او شفاعت سرہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت او لیجے زمونیر پہ سردار محمد باندے

بِنَبِيِّ الْحُكْمِ وَالْحِكْمَةِ السَّرَاجِ الْوَهَّاجِ

چہ نبی دے دُحکم او حکمت روینانہ چراغ دے

الْمَخْصُوصِ بِالْخُلُقِ الْعَظِيمِ وَخْتَمِ

خاص کرے شوے دے بہ عظیم خونی سرہ او ختمونکے

الرُّسُلِ ذِي الْمِعْرَاجِ وَعَلَى إِلِهِ وَ

درسلوانو خاوند د معراج او پہ آل دھغوی او پہ

أَصْحَابِهِ وَاتِّبَاعِهِ السَّالِكِينَ عَلَى

اصحابو دھغوی او پہ پیروی کونکو دھغوی کوم چہ تلونکی دی پہ

مَنْهَجِهِ الْقَوِيمِ ۝ فَأَعْظِمِ اللَّهُمَّ بِهِ

لارہ رویشانہ نیغہ بانڈے . پس عظیمہ کرے اے اللہ پہ ہغوی سرہ

مِنْهَجِ نُجُومِ الْإِسْلَامِ وَمَصَابِيحِ

دا سلام رویشانہ ستورو لارہ او دیوے

الظَّلَامِ الْمُهْتَدَى بِهَمْرِ فِي ظُلْمَةِ لَيْلِ

ڈتیارو چہ ہدایت موندے شی پہ ہغوی سرہ پہ تیارے دشیے

الشُّكِّ الدَّائِجِ صَلَوةً دَائِمَةً مُسْتَمِرَّةً

ڈشک تورے کنے . داسے رحمت اولیہے چہ ہمیشہ جاری او سی

مَا تَلَا طَمَّتْ فِي الْأَجْحَرِ الْأَمْوَاجِ وَطَا

لوغو پورے چہ چپے وہی پہ دریابونو کنے موجونہ او طواف کوی

بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝

دخانہ کعمے نہ دھرے لارے لارے نہ

الْحَجَّاجِ وَأَفْضَلُ الصَّلَوةِ وَالسَّلِيمِ عَلَى

حج کونکی او غورہ درود او سلام دوی پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَصَفْوَتِهِ

سردارز مونیر محمد بانڈے چہ عزتمنبر رسول دھغے دے او برگزیدہ دھغے دے

مِنَ الْعِبَادِ وَشَفِيعِ الْخَلَائِقِ فِي لَيْلِ عَادِ

د بند یگانونہ او شفاعت کونکے د مخلوقات تودے دقیامت پہ ورخ

صَاحِبِ لِمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَالْحَوْضِ

صاحب د مقام محمود دے او دحوض دے چرتہ بہ چہ

الْمَوْرُودِ النَّاهِضِ بِأَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ

خلق راخی کوزیری بہ او چتونکے د عباگانو درسات

والتبلیغ الأعم والأخصوص بشرف

او د تبلیغ د احکامو عامو او خاصو، په شرف

السعیة فی صلاح الأعظم ۰ صلی

د کوشش کولو په ډیره لویه ښکړه کېښی، درود ډاو لیری

الله علیه وعلى إله صلوة دایمة

الله تعالیٰ په هغوی باندې او په آل دهغوی داسه درود چه همیشه

مستمرة الدوام على مراللیالوالایام

جاری وی، همیشه په جاری او سیدلو د شپو او دورخو کېښی

فهو سید الأولین والأخرین و

پس هغه سردار د او لنو او روستنو دې او

أفضل الأولین والأخرین ۰ علیه

ډیر غوره دې په رومینو او روستنو کېښی، په هغوی ډوی

أفضل صلوة المصلین ۰ وأزکی

غوره درود د درود وډیونکو، او پاکیزه

سلام المسلمین ۰ وأطیب ذکر

سلام د اسلام لیکونکو، او ډیر پاکیزه ذکر

الذکرین ۰ وأفضل صلوات الله

د ذکر کونکو او ډیر غوره درودونه د الله

وأحسن صلوات الله ۰ وأجل صلوات

او ډیر ښکلې درودونه د الله، او ډیر او چت درودونه

الله ۰ وأجمل صلوات الله ۰ و

د الله، او ډیر ښائسته درودونه د الله او

أكمل صلوات الله ۰ وأسبغ صلوات

ډیر کامل درودونه د الله او ډیر پوره درودونه

الله ۰ وأتم صلوات الله ۰ وأظهر

د الله او ډیر پوره درودونه د الله او ډیر روښانه

صلوات الله ۰ وأعظم صلوات الله

درودونه د الله او ډیر لوڼی درودونه د الله

وَأَذْكُرُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَطْيَبُ صَلَوَاتِ اللَّهِ

او دیر روشانه درودونه د الله. او دیر پاکیزه درودونه

اللَّهُ وَأَبْرِكُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَزْكُرُ

د الله، او دیر برکت والا درودونه د الله او دیر پاکیزه

صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَنْتَعِي صَلَوَاتِ اللَّهِ

درودونه د الله او دیر زیاتیدونکی درودونه د الله

وَأَوْفِي صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَسْتَعِي صَلَوَاتِ اللَّهِ

او دیر پوره درودونه د الله او دیر او چت درودونه

اللَّهُ وَأَعْلَى صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَكْثَرُ

د الله او دیر زیات او چت درودونه د الله او دیر

صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَجْمَعُ صَلَوَاتِ اللَّهِ

درودونه د الله او دیر جامع درودونه د الله

وَأَعْمُرُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَدْوَمُ صَلَوَاتِ اللَّهِ

او دیر عام شوی درودونه د الله او همیشه پاتے کیدونکی درودونه

اللَّهُ وَأَبْقِي صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَعِزُّ

د الله او باقی پاتے کیدونکی درودونه د الله او دیر عزتمند

صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَرْفَعُ صَلَوَاتِ اللَّهِ

درودونه د الله او دیر او چت درودونه د الله

وَأَعْظِمُ صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَى أَفْضَلِ خَلْقِ

او دیر لوئے درودونه د الله، په دیر غوره مخلوق

اللَّهُ وَأَحْسِنُ خَلْقِ اللَّهِ وَأَجَلُّ

د الله او په دیر خائسته مخلوق د الله. او په دیر او چت

خَلْقِ اللَّهِ وَأَكْرَمُ خَلْقِ اللَّهِ وَأَجْمَلُ

مخلوق د الله او په دیر عزتمند مخلوق د الله او په دیر خائسته

خَلْقِ اللَّهِ وَأَكْمَلُ خَلْقِ اللَّهِ

مخلوق د الله او په دیر کامل مخلوق د الله

وَأَتَوَّخَلِّقُ اللَّهِ وَأَعْظَمُ خَلْقِ اللَّهِ

او په دیر پوره مخلوق د الله او په دیر لوئے مخلوق د الله

عِنْدَ اللَّهِ ○ رَسُولِ اللَّهِ ○ وَنَبِيِّ اللَّهِ

به نزد د الله - رسول د الله او نبي د الله

وَحَبِيبِ اللَّهِ ○ وَصَفِيِّ اللَّهِ ○ وَرَجِيِّ اللَّهِ

او حبيب د الله او غوره كړې شوم د الله او هم كلام د الله

وَخَلِيلِ اللَّهِ ○ وَوَلِيِّ اللَّهِ ○ وَآمِينِ اللَّهِ

او دوست د الله او ولي د الله او امين د الله

وَخَيْرَةِ اللَّهِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ ○ وَنُحْبَةِ

او غوره كړې شوم د الله د مخلوق د الله نه او منتخب شوم

اللَّهِ مِنْ بَرِيئَةِ اللَّهِ ○ وَصَفْوَةِ اللَّهِ

د الله د مخلوق د الله نه او برکزيده د الله

مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ ○ وَعُرْوَةِ اللَّهِ ○ وَ

د الله په پيغمبرانو كښې او رسي د الله او

عِصْمَةِ اللَّهِ ○ وَنِعْمَةِ اللَّهِ ○ وَمِفْتَاحِ

عصمت د الله او نعمت د الله او كنجي

رَحْمَةِ اللَّهِ ○ الْمُخْتَارِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

رحمت د الله، غوره كړې شوم درسلانو د الله نه

الْمُنْتَخِبِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ لِقَائِهِ بِالْمَطْلَبِ

منتخب كړې شوم د الله د مخلوق نه رسيدونكې دې مطلب ته

فِي الْمَرْهَبِ وَالْمَرْغَبِ الْمَخْلَصِ فِي

په ويره كښې او په اميد كښې. خالص كړې شوم دې په هغه څه كښې

مَا وَهَبَ ○ أَكْرَمِ مَبْعُوثِ أَصْدَقِ

چه ور كړې شوي دي. ډير عزتمند ليكلې شوم، ډير رشتياويونكې

قَائِلِ ○ أَنْجِحِ شَافِعِ ○ أَفْضَلِ مُشَفِّعِ

ډير كامياب شفاعت كونكې ډير غوره شفاعت قبول شوم امانتدار دې

الْآمِينَ فِي مَا اسْتَوْدِعَ الصَّادِقِ فِي مَا

په هغه څه كښې چه ورسره امانت شوي دي رشتنې په هغه څه كښې

بَلَّغَ الصَّادِعِ بِأَمْرِ رَبِّهِ الْمُضْطَّرِّ بِمَا

چه رسولې ئې دي ظاهر دمكې دحكم درب خپل ثابت قدمې په هغه څه

مَحَلَّ ۞ اقْرَبِ رُسُلِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَوَسِيلَةَ

چه ورته بارشوي دي نزديك تر دالله به رسول نوا كننه الله ته په وسيله كننه

وَاعْظِمِهِمْ غَدًّا عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً ۞ وَ

اوزيات او چت به وي صباله قيامت كننه دالله په نزديك مرتبه كننه او

فَضِيلَةً ۞ وَاكْرِمِ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ الْكِرَامِ

په فضيلت كننه او ډير عزتمند د الله تعالي په انبياء كرامو كننه

الصَّفْوَةِ عَلَى اللَّهِ ۞ وَأَحْبِبَّهُمْ إِلَى اللَّهِ

غوره شوه د الله په نزد او زيات خوښ الله تعالي ته

وَاقْرَبِهِمْ زُلْفَى لَدَى اللَّهِ ۞ وَاكْرِمِ

اوزيات نزدك د الله په نزد او زيات عزتمند په مخلوق كننه الله ته

الْمَخْلُوقِ عَلَى اللَّهِ ۞ وَأَحْظَاهُمْ وَأَرْضَاهُمْ

اوزيات نزدك په هغوى كننه اوزيات راضي اوسيدونك په هغوى كننه

لَدَى اللَّهِ ۞ وَأَعْلَى النَّاسِ قَدْرًا ۞

د الله په نزد اوزيات او چت په خلقو كننه په مرتبه كښي او ډير لوړ په هغوى

وَاعْظِمِهِمْ مَحَلًّا ۞ وَاكْبِرْهُمْ مَحَاسِنًا

كننه په مرتبه كننه او ډير كامل په هغوى كننه په نيكو او فضيلت كننه

وَفَضْلًا ۞ وَأَفْضَلِ الْأَنْبِيَاءِ دَرَجَةً ۞ وَ

او غوره په نبیانو كننه په درجه كننه اوزيات كامل دهغوى نه په شريعت

اكْبِرْهُمْ شَرِيعَةً ۞ وَأَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

كننه اوزيات شرافت والا په نبیانو كننه په اصل كننه اوزيات روښانه په

نَصَابًا ۞ وَأَبِيهِمْ بَيَانًا ۞ وَخَطَابًا ۞ وَأَفْضَلِهِمْ

هغوى كننه په بيان او خطاب كننه او ډير غوره په خلقو كننه ديبداش

مَوْلِدًا ۞ وَأُمَّهَجْرًا ۞ وَعَتْرَةً ۞ وَأَصْحَابًا ۞ وَاكْرِمِ

خانكې كننه او دهجرت خانكې كننه او په اولاد او اصحابو كننه اوزيات

النَّاسِ أَرْوَمَةً ۞ وَأَشْرَفِهِمْ جُرْتُومَةً ۞

عزتمند په خلقو كننه په اصل كننه اوزيات شرافت والا په جماعت كننه

وَخَيْرِهِمْ تَفْسًا ۞ وَأَطْهَرِهِمْ قَلْبًا ۞ وَأَصْدَقِهِمْ

اوبهترين په هغوى كننه په اعتبار د خان سره اوزيات صفات زړه والا اوزيات



الْحَزْبُ الرَّابِعُ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ  
خلورم حزب د زیارت دورخ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ  
ای اللہ رحمت او لبرے زموئیر پہ سردار محمد باندے چه ستا بندہ دے

وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا  
او ستا رسول دے نبی اُمی دے او پہ آل د سردار زموئیر

مُحَمَّدٍ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا  
محمد باندے ای اللہ رحمت او لبرے زموئیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَةٌ  
محمد باندے او زموئیر د سردار محمد پہ آل باندے داسے رحمت

تَكُونُ لَكَ رِضَىٰ وَلَهُ جَزَاءٌ وَلِحَقِّهِ  
چه ترے درضاسبب شی او هغوی دپاره جزاشی او دهغوی د حق دپاره

أَدَاءٌ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَ  
ادا والے شی او ورکے ورله وسیله او فضیلت او

الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَأَجْرَهُ  
هغه مقام محمود ذکوم چه تا وعده کرے ده هغه سره او جز اورله ورکے

عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَأَجْرَهُ أَفْضَلُ مَا  
ر مونیر د طرفه ذکومے چه هغه لائق وی او بدله ورله ورکے غوره دهغه نه

جَازَيْتَ نَبِيًّا عَن قَوْمِهِ وَرَسُولًا عَن  
چه تا بدله ورکے ده یونی ته دخپل قومنه او یورسول ته دخپل

أُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنْ  
امت د طرفنه او رحمت او لبرے په ټولو روترو دهغوی د پیغمبرانو

النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ  
نه او ذنیک بختانونه ای زیات رحم کونکیه په ټولو رحم کونکو کنھے

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَضَائِلَ صَلَوَاتِكَ وَ  
ای اللہ او کرخوئے غوره رحمتونه خپل

شَرَائِفَ زَكَوَاتِكَ وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ  
او چت خیرونه او خوبیانے خپلے او زیاتیدونکی برکتونه خپل

وَعَوَاطِفَ رَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَتَحَبُّبِكَ  
او مہربانیاں ذ بخشش خہل او رحمت خہل او سلام خہل

وَفَضَائِلَ الْأَيْكِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
او غورہ نعمتوںہ خہل زمونیر بہ سردار محمد بانده

سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
چہ سردار د رسولانو دہ او رسول درب العلمین دہ

قَائِدِ الْخَيْرِ وَفَاتِحِ الْبُرُوجِ الرَّحْمَةِ  
قائد دخیر دہ او کولاوونکے دنیکے دہ او نبی درحمت دہ

وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ ۝ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا  
اوسردار دامت دہ۔ اے اللہ وے لیہے مقام محمود تہ چہ نزدہ

مَحْمُودًا تَرْزُقْ بِه قُرْبَهُ وَتَقْرِبْهُ عَيْنَهُ  
کرے تہ دھغہ بہ سبب قرب دھغوی او چہ یخے کرے دھغہ بہ سبب ستر کرے

يَغِيْظُهُ بِه الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ ۝  
دھغوی چہ پستخیری ورتہ دھغہ بہ سبب اولی خلق ہم او روستونی ہم

اللَّهُمَّ آعْطِهِ الْفَضْلَ وَالْفَضِيلَةَ  
اے اللہ ودر کرے ورتہ بہتر والے او فضیلت

وَالشَّرَفَ وَالْوَسِيلَةَ وَاللَّحْجَةَ الرَّفِيعَةَ  
او شرف او وسیلہ او او چتہ درجہ

وَالْمَنْزِلَةَ الشَّامِخَةَ ۝ اللَّهُمَّ آعْطِ  
او او چتہ مرتبہ۔ اے اللہ ودر کرے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَبَلِّغْهُ  
زمونیر سردار محمد تہ وسیلہ او وے زسوم

مَا مَوْلَاهُ وَاجْعَلْهُ أَوَّلَ شَافِعٍ وَأَوَّلَ  
خہل امید تہ او وے کرخومے رومے شفاعت کونکے او رومے

مُشْفِعٍ ۝ اللَّهُمَّ عَظِّمْ بُرْهَانَهُ وَ  
شفاعت قبول کرے شوم۔ اے اللہ او چت کرے دلیل دھغوی او

تَقِلْ مِيزَانَهُ وَأَبْدِجْ حُجَّتَهُ وَارْفَعْ  
دروند کرے میزان دھغوی اوروشانہ کرے حجت دھغوی او او چتہ کرے

فِي أَهْلِ عَلِيٍّ دَرَجَتَهُ ۝ وَفِي  
په عليين والو کنه درجه دهغوی او په

أَعْلَى الْمُقَرَّبِينَ مَنزِلَتَهُ ۝ اللَّهُمَّ  
او چنو مقربينو کنه مرتبه دهغوی . اے الله

أَحْيِنَا عَلَى سُنَّتِهِ ۝ وَتَوْفِقْنَا عَلَى مِلَّتِهِ ۝  
مونيزوندي اولر په طريقه دهغوی او مونيزه مرگ راولر په ملت دهغوی

وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ وَاحْشُرْنَا  
او اوگر خوے مونير اهل دشفاعت دهغوی . او مونيزه راهاسوے

فِي زُمْرَتِهِ وَأَوْرِدْنَا حَوْضَهُ ۝ وَاسْقِنَا  
دهغوی په زمرة کنه او مونيزه ورو لر دهغوی حوض ته . او په مونيزه او

مِنْ كَأْسِهِ غَيْرِ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ وَ  
خکوے دهغوی دجام نه چه نه مونيزه رسواشوي يواونه شرمنده يو او

لَا شَاكِيْنَ وَلَا مُبَدِّلِيْنَ وَلَا مُغَيِّرِيْنَ  
نه شك كونكي يو او نه بدلونكي يو او نه تغير راوستونكي يو

وَلَا فَاتِنِينَ وَلَا مَفْتُونِينَ أَمِينَ يَا  
او نه گمراه كونكي يو او نه گمراه كيلونكي يو . قبوله کرے اے

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى  
رب العالمينه . اے الله رحمت او لبرے زمونيزه په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
سردار محمد بانده او زمونيزه سردار محمد په آل بانده

وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفُضَيْلَةَ وَالذَّجَجَةَ  
او ور کرے ورته وسيله او فضيلت او درجه

الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ  
او چنه او بونے خه هغه مقام محمود ته چه ته

الَّذِي وَعَدْتَهُ مَعَ إِخْوَانِهِ النَّبِيِّينَ ۝  
نه ورسره وعده کرے ده سره ذبيغمبر انورونرو دهغوی سره رحمت

صَلِّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِبِي الرَّحْمَةِ  
داو کري الله تعالی زمونيزه سردار محمد بانده چه درحمت نبي دے

وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ وَعَلَىٰ آيِنَا سَيِّدِنَا

او سردار امت دے، او زمونیر پہ پلار حضرت آدم بانده

أَدَمَ وَأَمَّنَا سَيِّدِنَا خَوَاءَ وَمَنْ وَّلَدَا

اوزمونیر پہ موربی بی حوابانده او خوک چه هغوی نه پیدا شوی دی

مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

د پیغمبرانو نه او صدیقانوه او شهیدانوه

وَالصَّالِحِينَ وَصَلِّ عَلَىٰ مَلِكِكَ

او صالحانوه او رحمت او لیرے پہ خپلو ملائکو تبولانده

أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ

په اسمانونو کنه اوسیدونکے او په زمکوبے او سیدونکے او په

وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ○

مونیر بانده هم د هغوی سره اے لورے رحم کونکيه په تبولورحم کونکو کنه

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَرِوَالِدِي

اے الله او بخنیه ماته گناهونه خما او خما مور پلارته

وَأَرْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَ

اورحم او کرے په هغوی بانده خنکه چه هغوی زه باللے یم په ورو

لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

کوالی کنه او تبول مومنان سړی او مومنانے بنخه

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ

اومسلمان سړی اومسلمانے بنخه کوم چه ژوندي دي په هغوی کنه او کوم

مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَتَبَاعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ

چه سره دي اوتابع کرے په مینخ زمونیره او په مینخ د هغوی کنه

بِالْخَيْرِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ

په بنه کرووسره اے رب بخنیه او کرے ماته اورحم رابلله او کرے لوته لیر پهرته

خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ○ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

رحم کونکو کنه لے اونشته دے گناهونو نه بچ کیدل اونه قوت دینکی کولو

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ○

مگر په توفیق دالله سره چه لیر او جت او لیر لورے دے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ

اے اللہ رحمت او لبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے چہ نور دے

الْأَنْوَارِ وَسِرِّ الْأَسْرَارِ وَسَيِّدِ

پہ انوارو کنے او راز دے پہ رازونو کنے او سردار دے

الْأَبْرَارِ وَزَيْنِ الْمُرْسَلِينَ الْاٰخِيَارِ

دنیکانو او زینت دے دمرسلانو نیکانو

وَآكْرَمِ مَنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَ

اوزیات عزتمند دے پہ ہفہ چاکنے چہ تیارہ کرے دہ ورباندے شہہ او

أَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ عَدَدَ مَا نَزَلَ

رہا کرے دہ ورباندے ورخ' پہ شمار دھے چہ راکوز شوی دی

مِنْ أَوَّلِ الدُّنْيَا إِلَىٰ آخِرِهَا مِنْ قَطْرِ

د دنیا دشروع نہ تر آخرہ پورے دغاخکو

الْأَمْطَارِ وَعَدَدَ مَا نَبَتَ مِنْ أَوَّلِ

دبارانونونہ او پہ شمار دھفہ چہ توکیدلی دی دشروع

الدُّنْيَا إِلَىٰ آخِرِهَا مِنَ النَّبَاتِ وَالْأَشْجَارِ

د دنیا نہ تر آخرہ پورے ذ بوتونہ او ذ او نونہ داسے رحمت

صَلْوَةً دَائِمَةً يَدَاؤِمُ مَلِكِ اللَّهِ الْوَاحِدِ

چہ ہمیشہ وی ہمیشہ والی دملک داللہ چہ یودی اوزبردست

الْقَهَّارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دے اے اللہ رحمت او لبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے داسے رحمت

صَلْوَةً تُكْرَمُ بِهَا مَثْوَاهُ وَتُشْرَفُ بِهَا

چہ عزتمند کرے پہ ہفے سرہ تہکانہ دھغوی او عزتمند کرے پہ ہفے سرہ

عُقْبَاهُ وَتَبْلُغُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَاهُ وَ

آخرت دھغوی اووے رسوے پہ دے سرہ پہ ورخ دقیامت مرادخبل تہ او

رِضَاهُ ۝ هَذِهِ الصَّلَاةُ تَعْظِيمُ الْحَقِّكَ

رضامندی خیلے تہ. دادرود تعظیم دے دپارہ دحق ستاسو

يَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا ۝ ثَلَاثًا ۝ اللَّهُمَّ

اے زمونیر سردار محمدہ. دے خل د اووانی. اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاءِ الرَّحْمَةِ

رحمت اولين زمونريه سردار محمدباندي چه دهغوي دنوم مبارک رحمت

وَمِيعِي لِمُلْكٍ وَدَالِ الدَّوَامِ السَّيِّدِ

دے اودوازه ميمونه نرے ملک ددنيا او آخرت دے اودال دلالت کوي په

الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ عَدَدَ مَا فِي

دوام درحمت سردار کامل دے دخيردوازه کولانکے دے خاتم د پيغمبرانو

عَلَيْكَ كَايْنٌ اَوْ قَدْ كَانَ كَلِمًا ذَكَرَكَ

دے په شمار دهغه چه ستا په علم کنیے کيلونکي دي ياشوي دي چه کوم وقت

وَذِكْرَةَ الذِّكْرُونَ وَكَلِمًا غَفَلَ عَنْ

يادوي تالره اويادوي هغوي لره يادونکي او کوم وخت چه غافل شي

ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَفْلُونَ ۝ صَلَوَةٌ

ستادد کر نه او دهغوي دذکر نه غفلت کونکي داسے رحمت او ليرے

دَائِمَةٌ يَدَاؤِمِكَ بَاقِيَةٌ بِبَقَائِكَ

چه هميشه اوسي سره دهميشه والي ستا باقي اوسي سره دباقي والي ستا

لَا مُنْتَهَى لِهَادُونَ عَلَيْكَ إِنَّكَ

چه نه وي انتها دپاره دهغه سوادعلم ستانه بيشکه ته

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ثَلَاثًا ۝ اَللَّهُمَّ

په هر شيز باندي قدرت لرونکے نرے درے خل داوواني اے الله

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

رحمت او ليرے زمونري په سردار محمد باندي نبي

الرُّمِّيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

امي دے او زمونري سردار محمدپه آل باندي خوک چه

هُوَ أَبِي هُوَ أَبِي شَمُوسِ الْهُدَى تَوْرًا وَ

زيات زيبا دي دهدايت دنمونونه په رنرا کنیے اوزيات غالب

أَبْهَرَهَا ۝ وَأَسِيرُ الْأَنْبِيَاءِ فَخْرًا وَ

دي په هغوي اولونرے سير کونکے په انبياو کنیے په فخر کنیے اوزيات

أَشْهَرَهَا ۝ وَتُورَةَ أَزْهَرَانُورِ الْأَنْبِيَاءِ

مشاوره هغوي کنیے اونور دهغوي زيات خليدونکے دے دانوارو دانبياؤنه

وَأَشْرَفُهَا وَأَوْضَحُهَا وَأَزْكَىٰ خَلْقِيَّةٍ

اوزیات روینانه دے اوزیات واضحه دے او دیر پاک به مخلوق کنیے

أَخْلَاقًا وَأَظْهَرُهَا وَأَكْرَمُهَا خَلْقًا وَ

به اخلاق سره او دیره پاکیزه او دیر عزتمند به اعتبار د پیدائش سره

أَعْدَلُهَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او دیر درست به هغوی کنیے اے الله رحمت او لیجے زمونیر به سردار

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

محمد باندمی چه نبی امی دے او به آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ أَبْهَىٰ مِنَ الْقَمَرِ

محمد باندمی غوک چه زیات بے مخے دے د سپور می پوره شوع نه

التَّائِبِ وَأَكْرَمُ مِنَ السَّحَابِ الْمُرْسَلَةِ

او زیات سخی دے د ورینخے لیگلے شوع نه

وَالْبَحْرِ الْخَطْمِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او دغبت دریاب نه اے الله رحمت او لیجے زمونیر به سردار

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

محمد باندمی چه نبی امی دے او به آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَرِنَتْ الْبَرَكَةُ بِذَاتِهِ

محمد باندمی هغه هستی چه تر لے شوع دے برکت دهغوی ذذات سره

وَمُحِبَّاهُ وَتَعَطَّرَتْ الْعَوَالِمُ بِطِيبِ

او دهغوی مخ مبارک سره او خوشبو به شول عالمونه به خوشبوئی

ذِكْرِهِ وَرِيَّاهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

د ذکر دهغوی سره او دهغوی به خوشبوئی سره اے الله رحمت او لیجے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ ۝

زمونیر به سردار محمد باندمی او دهغوی به آل باندمی او سلام او لیجے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اے الله رحمت او لیجے زمونیر به سردار محمد باندمی او به

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

آل د سردار زمونیر محمد باندمی او برکت او لیجے زمونیر به سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد باندے او په آل د سردار زمونږ محمد باندے

وَأَرْحَمَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ سَيِّدِنَا

اورحم او کره زمونږ په سردار محمد باندے او په آل د سردار زمونږ محمد باندے

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ

څنگه چه تارحمت لیرے دے او برکت دلځکله دے اورحم ذکرے دے

عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

زمونږ په سردار ابراهیم باندے او په آل د سردار زمونږ ابراهیم باندے

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ

بیشکه ته ډیر ستایلے شوم دلونے بزځي خاوندے. اے الله

صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

رحمت اولیرے زمونږ په سردار محمد باندے چه ستابنده دے

وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ

او ستا نبي دے او ستا رسول دے چه نبي اُمي دے او په

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل د سردار زمونږ محمد باندے. اے الله رحمت اولیرے

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

زمونږ په سردار محمد باندے او په آل د سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ مِلَّةَ الدُّنْيَا وَمِلَّةَ الْآخِرَةِ ۝

محمد باندے په دكوالي د دنیا او په دكوالي د آخرت

وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

او برکت او لیرے زمونږ په سردار محمد باندے او په آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلَّةَ الدُّنْيَا وَمِلَّةَ

د سردار زمونږ محمد باندے په دكوالیدد دنیا او په دكوالي

الْآخِرَةِ ۝ وَأَرْحَمَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا

د آخرت. او رحم او کره زمونږ په سردار محمد باندے

وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلَّةَ الدُّنْيَا وَ

اومونږ د سردار محمد په آل باندے په دكوالي د دنیا او

مِلَّ الْأُخْرَةَ ○ وَاجْزِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا

پہ ذکوالی د آخرت . او جز او کرے زمونیر سردار محمد کہ

وَأَلَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ مِلَّ الدُّنْيَا وَمِلَّ

او زمونیر د سردار محمد آل له پہ ذکوالی د دنیا او پہ ذکوالی

الأخيرة ○ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

د آخرت او سلام او لیبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلَّ الدُّنْيَا وَ

او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندے پہ ذکوالی د دنیا او

مِلَّ الْأُخْرَةَ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پہ ذکوالی د آخرت . اے اللہ درود او لیبرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ ○

محمد باندے خشکہ چہ تاحکم کرے دے مونیرتہ درود لیکلو پہ ہفہ باندے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِي

او درود او لیبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے خشکہ چہ بنائیری

أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ

درود لیکلو پہ ہفوی باندے . اے اللہ رحمت او لیبرے پہ خیل نبی

المُصْطَفَى وَرَسُولِكَ الْمُرْتَضَى وَوَلِيِّكَ

غورہ کرے شوی باندے او پہ خیل برگزیدہ رسول باندے او پہ خیل دوست

المُجْتَبَى وَإِمِينِكَ عَلَى وَحْيِ السَّمَاءِ ○

غورہ کرے شوی باندے او چہ سنا امین دے د آسمان پہ وحی باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَرِيمٍ

اے اللہ رحمت او لیبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے چہ ڈیر عزتمند دے

الْأَسْلَافِ الْفَاضِلِينَ بِالْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ

پہ مخکنو کنے قائم دے یہ عدل او اسلام باندے

الْمَنْعُوتِ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ الْمُنْتَخِبِ

صفت کرے شوی دے پہ سورت اعراف کنے انتخاب کرے شوی دے

مِنْ أَصْلَابِ الشَّرَافِ وَالْبَطُونِ

د شاکانو د اشرافو او کلبو

الْخِطَافِ الْمُصَفِّ مِنْ مُصَاحِرِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

صفاؤ پاکیزه و نه خلاصه د خاندان د عبدالمطلب

ابن عبد منافِ الَّذِي هَدَيْتَ بِهِ

بن مناف نه هغه هستي چه تا لاره او بنودله دهغه په ذریعه

مِنَ الْخِطَافِ وَبَيَّنْتَ بِهِ سَبِيلَ

دخلاف نه او بیانه کره تا دهغه په ذریعه لاره

الْعَقَافِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَفْضَلِ

د پاکتي. اے الله زه غواړم تانه په وسیله د افضل ترین

مَسْأَلَتِكَ وَبِأَحَبِّ أَسْمَائِكَ إِلَيْكَ وَ

سوال چه تانه کولې شي او په وسیله د محبوب نومونو تانه اوزیات

أَكْرَمِهَا عَلَيْكَ وَبِمَا مَنَنْتَ عَلَيْنَا

عزتمند دهغه تانه اوسره دهغه احسان نه چه تا په مونږ باندې کرې دې

بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

په رالیکلو د سردار زموږ محمد کوم چه زموږ په نبي دې صلي الله عليه

وَسَلَّمَ فَاسْتَنْقَذَ تَنَائِبَهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ

وسلم. نو تانمونږه خلاص کړو دهغه په ذریعه د گمراهي نه او تارانه

أَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَجَعَلْتَ صَلَاتَنَا

حکم کرې دې د درودونو په هغوی باندې او تاگر خولې دې درود

عَلَيْهِ دَرَجَةً وَكَفَّارَةً وَطُفَاءً وَمَنًّا

مونږ په هغه باندې درجه او کفارو او مهرباني او احسان

مِنْ أَعْطَاكَ فَأَدْعُوكَ تَعْظِيمًا

د خپلو وړ کرونه. نوزه دُعا غواړم تانه سره د تعظیم

لَا مَرِكَ وَاتِّبَاعًا لَوْصِيَّتِكَ وَمُنْتَجِزًا


د حکم ستا اوسره د پیروي کولو د وصیت ستا اوسره د وفا کولو

لِمَوْعُودِكَ لِمَا يَجِبُ لِنَبِيِّنَا سَيِّدِنَا

دوعده ستا دپاره دهغه چه واجب دي د پاره د نبي او سردار زموږ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آدَاءِ

محمد صلي الله عليه وسلم په ادا کولو



حَقُّهُ قَبْلَنَا إِذْ آمَنَّا بِهِ وَصَدَّقْنَاهُ وَاتَّبَعْنَا

دحق دھغوی زمونیر دطرفہ حکمہ مونیر ایمان راوہے دے پہ ہغوی بقلہ او مونیر دھغوی تصدیق کرے دے

التَّوْرَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ وَقُلْتَ وَقَوْلِكَ

اویروی مو کرے دہ دھغہ نورچہ نازل کرے شودے ہغوی سرہ اوونیلی دی تااوونیاستا

الْحَقُّ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى

حقہ دہ چہ بیشکہ اللہ تعالیٰ او دھغہ فرشتے درود لیگی پہ

النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ

نبی بانلے اے ایمان دارو درود او لیگی پہ ہغہ بانلے

وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَأَمَرَتِ الْعِبَادَ بِالصَّلَاةِ

اوسلام پرے اولیگی ڈیر سلام او حکم ڈکرے دے بندگانو تہ پہ درود لیگیو

عَلَى نَبِيِّهِمْ فَرِيضَةً إِفْتَرَضْتَهَا وَأَمَرْتَهُمْ

خپل پیغمبر بانلے داو فرض دے چہ تافرض کرے دے او حکم ڈکرے دے بندگانو تہ

بِهَا فَانْسئْكَ بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَتَوَرُّعِ عَظْمَتِكَ

پہ دے سرہ تو سوال کوؤ تانہ سرہ دجلال ذات ستا اوسرہ د نور د عظمت ستا

وَمَا أَوْجَبْتَ عَلَى نَفْسِكَ لِلْمُحْسِنِينَ

اوسرہ دھغے چہ واجب کرے دی تا پہ خان خپل دبارہ دنیکانو

أَنْ تُصَلِّيَ أَنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ عَلَى سَيِّدِنَا

چہ درود اولیکہ تہ او فرشتے ستا زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ بِنَلِّهِ جِهَ سَتَا بِنَلِّهِ دَعَا أَوْ سَتَانِي دَعَا

محمد بانلے چہ ستا بنلہ دے او ستا رسول دے اوستانی دے

وَصَفِيٍّ وَخَيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ أَفْضَلَ

اوستاغورہ کرے شومے اوخونیں کرے شومے دے پہ مخلوق ستا کنے

مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ إِنَّكَ

ہغہ غورہ درود چہ تالیگلے دے پہ یو گس بانلے د مخلوق خپل نہ

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ

ہیشکہ تہ ڈیر ستانیلے شومے دلویں خاوندے اے اللہ پور تہ کرے

وَآكْرِمْ مَقَامَهُ وَثَقِّلْ مِيزَانَهُ وَ

در چہ دھغہ او عزتمند کرے مقام دھغہ او دروند کرے میزان دھغہ او

أَبْلَجُ حُجَّتَهُ وَأَظْهَرَ مِلَّتَهُ وَأَجْزَلَ

او رویشانه کرے دلیل دھغہ او ظاہر کرے ملت دھغہ او زیات کرے

ثَوَابَهُ وَأَاضِي نُورَهُ وَأَدْمُ كَرَامَتَهُ

ثواب دھغہ اور رویشانه کرے نور دھغہ او ہمیشہ اولے کرامت دھغہ

وَالْحَقُّ بِهِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ

او ملاؤ کرے ورسرہ اولاد دھغہ او اہل بیت دھغہ چہ بخے شی

مَا تُقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ وَعَظْمُهُ فِي النَّبِيِّنَ

ورسرہ ستر کے دھغہ او اوچت نے کرے بہ ہغہ پیغمبرانو کے کرم

الَّذِينَ خَلَوْا قَبْلَهُ ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْ

چہ تیر شوی دی مخکنے دھغہ نہ، اے اللہ او کرخوے زمونہ سردار

سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا أَكْثَرَ النَّبِيِّنَ

محمد زیات پہ تولو پیغمبرانو کے پہ اعتبار د پیروی کونکو سرہ

تَبَعًا وَأَكْثَرَهُمْ أَرْسَاءً وَأَفْضَلَهُمْ

او پہ تولو کے زیات پہ اعتبار دوزیرانو سرہ او تولو کے غورہ

كَرَامَةً وَنُورًا ۝ وَأَعْلَهُمْ دَرَجَةً

بہ اعتبار د کرامت او نور سرہ او پہ تولو کے اوچت پہ اعتبار د درجے سرہ

وَأَفْسَحَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلًا ۝ اللَّهُمَّ

او ڈیرہ فراخہ ور کرے بہ جنت کے مرتبہ اے اللہ

اجْعَلْ فِي السَّابِقِينَ غَايِبَةً وَفِي لَمْتَخِينِ

او کرخوے پہ مخکو کے غایت دھغہ او پہ منتخب شوؤ کے

مَنْزِلَةً ۝ وَفِي الْمُقَرَّبِينَ دَارَةً وَفِي

مقام دھغہ او پہ مقربانو کے کوردھغہ او پہ

الْمُصْطَفَيْنِ مَنْزِلَةً ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ

غورہ کے شوؤ کے مرتبہ دھغہ، اے اللہ او کرخوے ہغہ لہ

أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ عِنْدَكَ مَنْزِلًا وَ

ڈیر عزتمند پہ عزتمند و کے پہ خیل نزد پہ مرتبہ کے

أَفْضَلَهُمْ ثَوَابًا وَأَقْرَبَهُمْ مَجْلِسًا وَ

او غورہ دھغی نہ پہ ثواب کے او زیات نزد دھغی نہ پہ مجلس کے او

أَثْبَتَهُمْ مَقَامًا وَأَصْوَبَهُمْ كَلَامًا وَ

اوزیات مضبوط دھغوی نہ بہ مقام کنیے اوزیات غورہ دھغوی نہ ستا بہ نزد

أَجْحَحَهُمْ مَسْئَلَةً وَأَفْضَلَهُمْ لَدَيْكَ

زیات فتحمند دھغوی نہ بہ سوال کنیے اوزیات غورہ دھغوی نہ ستا بہ نزد

نَصِيبًا وَأَعْظَمَهُمْ فِيمَا عِنْدَكَ رَغْبَةً

بہ نصیب کنیے او ڈیر لونی دھغوی نہ بہ ہغہ شہ کنیے چہ تاسرہ دی

وَأَنْزَلَهُ فِي عُرْفَاتِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ

درغبت نہ او نازل نے کرے بہ درجو د فردوس کنیے د

الدَّرَجَاتِ الْعُلَى الَّتِي لَادْرَجَةٍ قَوْفَهَا ۝

او چتو درجونہ د کومے نہ پاس چہ بلہ درجہ نیشہ

اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا أَصْدَقَ

اے اللہ او مگر خومے زمونیر سردار محمد ڈیر رشتیے

قَائِلٍ وَأَنْجَحَ سَائِلٍ وَأَوَّلَ شَافِعٍ

ویونکے او ڈیر فتحمند دھر سوال کونکی نہ او رومے شفاعت کونکے

وَأَفْضَلَ مُشَفِّعٍ وَشَفِّعَهُ فِي أُمَّتِهِ

او ڈیر غورہ شفاعت قبول شومے او شفاعت قبول کرے بہ حق دامت دھغہ

بِشَفَاعَةِ يَغِيْطُهُ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ

کنیے دا سے شفاعت چہ او پسخیری ورثہ او لنی ہم او آخرنی ہم

وَإِذَا مَيَّزْتَ عِبَادَكَ بِفَضْلِ قَضَائِكَ

او ہر کلہ چہ جدا کرے بندگان خیل بہ فیصلے د حکم خیل سرہ

فَاَجْعَلْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا إِنْ فِي لَأَصْدَقِينَ

نو او مگر خومے زمونیر سردار محمد بہ ڈیر رشتیا ویونکو کنیے

سَيِّدًا وَفِي لَأَحْسَنِينَ عَمَلًا وَفِي لَأَهْدِيَيْنِ

او بہ ڈیر بنہ عمل کونکو کنیے او بہ ہدایت کرے شوؤ کنیے

سَيِّدًا ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَبِيَّتَنَا

بہ دین کنیے . اے اللہ او مگر خومے نبی زمونیر مونیہ د بارہ مخکنیے

قَرَطًا وَاجْعَلْ حَوْضَهُ لَنَا مَوْعِدًا

لہ بندوبست کونکے او او مگر خومے حوض دھغہ مونیہ د بارہ خائے دو عدلے



إِلَى الرَّشْدِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ

راستوالی طرفتہ نبی درحمت دے امام ذہرہیز نگارانو دے اورسول درب

وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا تَبِيَّ بَعْدَهُ

العالمین دے نیشته ہیخ پیغمبر ہغوی نہ پس خنگہ چہ راستولے نے

كَمَا بَلَغَ رِسَالَتَكَ وَتَصَمَّ لِعِبَادِكَ وَتَلَا

دے پیغام ستا و خیر خواہی نے کرے دہ بندگانو ستا و لوستی نے دی

آيَاتِكَ وَأَقَامَ حُدُودَكَ وَوَفَّى بِعَهْدِكَ

آیتونہ ستا و قائم کری نے دی حدونہ ستا او پورہ کرے نے دے لوظ ستا

وَأَنْفَذَ حُكْمَكَ وَأَمَرَ بِطَاعَتِكَ وَنَهَى

اونافذ کرے نے دے حکم ستا و حکم نے کرے دے طاعت ستا و منع نے

عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَوَالِي وَلِيِّكَ الَّذِي

کرے دے دنا فرمانی ستانہ او دوستی نے کرے دہ ستا ہغہ دوست سرہ چہ

تُحِبُّ أَنْ تُوَالِيَهُ وَعَادَى عَدُوَّكَ الَّذِي

خوبنوں تہ دوستی کول ہغہ سرہ او دشمنی نے کرے دہ ستا ہغہ دینمن سرہ

تُحِبُّ أَنْ تُعَادِيَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا

چہ تہ خوبنوں دشمنی کول ہغہ سرہ اورحمت دینازل کری اللہ تعالیٰ زمونیر

مُحَمَّدٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِهِ

بہ سردار محمد باندرے . اے اللہ رحمت او لیرے بہ بدن دھغوی

فِي الْأَجْسَادِ وَعَلَى رُوحِهِ فِي الْأَرْوَاحِ

بہ بدنونو کینے او بہ روح دھغوی بہ رحونو کینے

وَعَلَى مَوَاقِفِهِ فِي الْمَوَاقِفِ وَعَلَى

او بہ خانے درو دریدلو دھغوی بہ حانیونو دو دریدلو کینے او بہ

مَشَاهِدِهِ فِي الْمَشَاهِدِ وَعَلَى ذِكْرِهِ

خانے د حاضریدلو دھغوی بہ خایونو د حاضریدلو کینے او یہ ذکر دھغوی

إِذَا ذُكِرَ صَلَوةٌ مِنَّا عَلَى نَبِيِّنَا ۝

کلہ چہ ذکر کرے شی درود زمونیر د طرفتہ زمونیر پہ نبی باندرے

اللَّهُمَّ أْبْلِغْهُ مِنَ السَّلَامِ كَمَا ذُكِرَ

اے اللہ ورتہ اورسوں زمونیر د طرفتہ سلام خنگہ چہ ذکر شوع دے

السَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ

سلام او سلام دوي به نبي باندے او رحمت

اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

دالله او برکتونه دهغه. اے الله رحمت او لیبے

عَلَى مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ

به خپلو مقربو فرشتو باندے او په خپلو پیغمبرانو باندے

الْمُطَهَّرِينَ وَعَلَى رُسُلِكَ الْمُرْسَلِينَ

چه پاکیزه دي او په خپلو لیکلو شوؤ رسولانو باندے

وَعَلَى حَمَلَةِ عَرْشِكَ وَعَلَى سَيِّدِنَا

او په او چتونکو دعرش ستا باندے او زمونږ په سردار

جَبْرِئِيلَ وَسَيِّدِنَا مِيكَائِيلَ وَسَيِّدِنَا

جبرئیل باندے او زمونږ په سردار میکائیل باندے او زمونږ په سردار

إِسْرَافِيلَ وَسَيِّدِنَا مَلِكِ الْمَوْتِ وَ

اسرافیل باندے او زمونږ په سردار ملک الموت باندے او

سَيِّدِنَا رِضْوَانَ خَازِنِ جَنَّتِكَ وَسَيِّدِنَا

زمونږ په سردار رضوان دجنت نگهبان باندے او زمونږ په سردار

مَالِكٍ وَصَلِّ عَلَى الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ

مالک باندے او رحمت اولیبے په کراما کاتبین باندے

وَصَلِّ عَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ

او رحمت اولیکے په خپلو تابعدارو ټولو باندے

مِنَ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ ۝

د آسمانونو او سیدونکو نه او دزمکو او سیدونکونه

اللَّهُمَّ رَاتِ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ أَفْضَلَ

اے الله ورکړے دخپل نبي اهل بیتو ته ډیر غوره دهغه څه نه

مَا أَتَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ

چه تا ورکړي دي یوکس ته داهل بیتو

الْمُرْسَلِينَ وَأَجْزَأَ أَصْحَابِ نَبِيِّكَ

د رسولونو نه او جزا ورکړے اصحابو د نبي خپل ته

أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ

زیاتہ غورہ دھغے نہ چہ تا جز اور کرے دہ یوکس تہ داصحابو

الْمُرْسَلِينَ ۝ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ

درسولانوںہ اے اللہ بخینہ او کرے مومنانو و سروتہ

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

او مومنانو بنخوتہ او مسلمانانو سروتہ او مسلمانانو بنخوتہ

الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ ۝ وَاعْفِرْ لَنَا

کوم چہ ژوندی دی دھغونہ او کوم چہ مرہ دی او بخینہ او کرے مونیترہ

وَأَخْوَانَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

اوز مونیترہ ہغہ رونروتہ چہ مونیترہ مخکنے تیرشوی دی پہ ایمان سرہ

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا

او مہ ساتے زمونیر پہ زرونو کنے کینہ د بارہ دمومنانو

رَبَّنَا إِنَّكَ رءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ اللَّهُمَّ

اے ربہ زمونیرہ بیشکہ تہ دیر مہربان دیر رحم کونکے نے اے اللہ

صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رحمت او لیجے پہ نبی ہاشمی زمونیر پہ سردار محمد باندے

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا ۝

اودھغوی پہ آل باندے او پہ اصحابو باندے او سلام پرے او لیجے دیر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ

اے اللہ رحمت اولیجے زمونیر پہ سردار محمد باندے شوک چہ بہتر دے

الْبَرِيَّةِ صَلَوةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَ

پہ مخلوق کنے داسے رحمت چہ راضی کرے تالرہ اوراضی کرے تہ ہغہ

تُرْضِيَهُمَا عَنَّا يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ۝

لرہ او چہ راضی شے پہ ہغہ سرہ زمونیرہ اے دھرچانہ زیات رحم کونکے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ رحمت او لیجے زمونیر پہ سردار محمد باندے او

عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

دھغوی پہ آل او اصحابو باندے او سلام او لیجے دیر دیر سلام

طَيْبًا مُّبْرَكًا فِيهِ جَزِيلًا جَمِيلًا دَائِمًا

چه پاک وي برکت ورکړه شوه وي په هغه کېږي او بڼکله وي

يَدَاوَامِ مُلْكِ اللَّهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

هميشه وي په هميشه والي د حکومت د الله اے الله رحمت او ليرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَلَدِهِ

زمونږ په سردار محمد باندې او دهغوئ په آل باندې په د کوالي

الْفُضَاءِ وَعَدَدَ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ

د فضا باندې او په شمار دستور د اسمان

صَلْوَةً تُوَازِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

داسې رحمت چه وزن لري د اسمانونو او د زمکې

وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ

او په شمار دهغه څه چه تا پيدا کړي دي او څه چه ته پيدا کونکې ئے

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

د قيامت تر ورځنې پورے اے الله رحمت او ليرے په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونږ محمد باندې او په آل د سردار زمونږ محمد باندې

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْتَ

څنگه چه تارحمت کړې دے زمونږ په سردار ابراهيم باندې او برکت او

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ليرے زمونږ په سردار محمد باندې او زمونږ د سردار محمد په آل

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا

باندې څنگه چه تا برکت ليکلې دے زمونږ په سردار

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

ابراهيم باندې او په آل د سردار زمونږ ابراهيم باندې

فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝

په عالمونو کېږي بيشکه چه ته ډير ستايلې شوه ئے د بزرگي والا ئے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ

اے الله زه غواړم تانه معافي او عافيت

فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ○

به دین کنی او به دنیا کنی او به آخرت کنی

ثَلَاثًا ○ اللَّهُمَّ اسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ

دری خل داوانی. ای الله پرده و اجوی به مونیر باندی به بنی پردی

الْجَمِيلِ ○ ثَلَاثًا ○ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

عجلی سره (دری خل داوانی) ای الله زه غوارم تانه

بِحَقِّكَ الْعَظِيمِ وَبِحَقِّ نُورِ وَجْهِكَ

به لوی حق ستا او به حق دنور دذات

الْكَرِيمِ وَبِحَقِّ عَرْشِكَ الْعَظِيمِ

عزتمند ستا او به حق د عرش عظیم ستا

وَبِمَا حَمَلَ كُرْسِيِّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ

او به هغه چا سره چه او چته کرے نے ده کرسی ستا دعظمت ستانه

وَجَلَالِكَ وَجَمَالِكَ وَبِهَائِكَ

او دجلال ستانه او دجمال ستانه او دخوبی ستانه

وَقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ وَبِحَقِّ أَسْمَائِكَ

او دقدرت سنا نه او دغلی ستانه او به حق دنومونو ستا

الْمَخْرُوجَةِ الْمَكْنُونَةِ الَّتِي لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا

کوم چه خزانه شوی اوپت دی کوموباندی چه خیردار نه دی

أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ ○ اللَّهُمَّ وَاسْأَلُكَ

هخ شوک دمخلوق ستانه. ای الله او سوال کوم تانه

بِالِاسْمِ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْبَيْلِ فَأَظْلَمَ

به وسیله دهغه نوم ستا چه تاکیخودلویه شبه باندی نو تیاره شوه

وَعَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَعَلَى السَّمَوَاتِ

او به ورخ د کیخودونو رویشانه شوه او به آسمانوباندی

فَأَسْتَقَلَّتْ ○ وَعَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ

نو قائم شول او په زمکه باندی نو حصاره شوه

وَعَلَى الْبِحَالِ فَأَرَسَتْ وَعَلَى الْبِحَارِ

او په غرونو باندی نو مضبوط شول او په دریابونو باندی

وَالْأُودِيَّةِ فَجَرَّتْ ۝ وَعَلَى الْعِيُونِ

او په خورزو باندي نو جاري شول او په چينو باندي

قَنَبَعَتْ ۝ وَعَلَى السَّحَابِ فَأَمْطَرَتْ ۝

نوراؤ خوټکيدې او په ورنجو باندي نو اووريدې

وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ

اوسوال کوم تانه اے الله شتا په هغه نومونوسره کوم چه ليکلي شوي دي

فِي جَهَّةِ سَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

په تندي د سردار زمونږ اسرافيل عليه السلام

وَيَا أَسْمَاءَ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَهَّةِ سَيِّدِنَا

او په هغه نومونوسره چه ليکلي شوي دي په تندي د سردار زمونږ

جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَى لِمَلِكِكَةَ

جبرئيل عليه السلام او سلام دوي په ملائکو

الْمُقَرَّبِينَ ۝ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ

مقربينو باندي. او سوال کوم تانه په وسيله دهغه نومونوسره

الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَيَا أَسْمَاءَ

چه ليکلي شوي دي چا پيره دعرش نه او په هغه نومونوسره

الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ وَأَسْأَلُكَ

چه ليکلي شوي دي چا پيره دكرسي نه، او سوال کوم تانه

اللَّهُمَّ يَا إِسْمَاءَ الْمَكْتُوبِ عَلَى وَرَقِ

اے الله دهغه نوم په وسيله سره چه ليکلي شوي دي په پاڼه

الرِّيْتُونِ ۝ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ

دريتون باندي. اوسوال کوم تانه اے الله په وسيله دهغه نومونوسره

الْعِظَامِ الَّتِي سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا

چه عظيم دي کوم چه تا ايخولي دي په خپل خان باندي کوم چه

عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ۝

ماته معلوم دي او کوم چه ماته نه دي معلوم.

الْحَزْبُ الْخَامِسُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ  
پنجم حزب دجمعہ دو رخت

وَاسْأَلْكَ اللَّهُمَّ بِأَسْمَاءِ الْعِظَامِ الَّتِي  
او سوال كوم تانه اے اللہ پہ وسیلے دھغے خچلو عظیمو نومونو سره

سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَ  
كوم چه تا ايخي دي په خان خچل كوم چه ماته معلوم دي او

مَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِأَسْمَاءِ  
كوم چه ماته نه دي معلوم. او سوال كوم تانه اے اللہ پہ وسیلے دھغے نومونو

الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا آدَمُ عَلَيْهِ  
سره چه رابللے نے په هغه سره زمونيره سردار آدم عليه السلام

السَّلَامُ ○ وَبِأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ  
او په وسیلے دھغه نومونو سره چه ته رابللے نے

بِهَا سَيِّدُنَا نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ  
په هغه سره زمونير سردار نوح عليه السلام. او

بِأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا  
په وسیلے دھغے نومونو سره چه ته رابللے نے په هغه سره زمونير سردار

هُودٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَبِأَسْمَاءِ الَّتِي  
هود عليه السلام او په وسیلے دھغے نومونو سره چه

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا اِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○  
رابللے نے ته په هغه سره زمونيره سردار ابراهيم عليه السلام

وَبِأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا  
او په وسیلے دھغه نومونو سره چه ته رابللے نے په هغه سره زمونير سردار

صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَبِأَسْمَاءِ الَّتِي  
صالح عليه السلام او په وسیلے دھغے نومونو سره

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○  
چه رابللے نے ته په هغه سره زمونيره سردار يونس عليه السلام

وَبِأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا  
او په وسیلے دھغے نومونو سره چه رابللے نے ته په هغه سره زمونيره سردار

أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ

ایوب علیه السلام. او په وسیله دهغه نومونو چه

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَاعِقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

دعا غوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار یعقوب علیه السلام

وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَايُوسُفُ

اوپه وسیله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږ

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ

سرداریوسف علیه السلام. او په وسیله دهغه نومونو سره چه

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

دعا غوښته ده تانه په هغه سره زمونږ سردار موسی علیه السلام

وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا

اوپه وسیله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږ

هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ

سردارهارون علیه السلام. او په وسیله دهغه نومونو سره

النَّبِيِّ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا شُعَيْبُ عَلَيْهِ

چه دعا غوښته ده تانه په هغه سره زمونږ سردار شعيب علیه السلام

السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ دَعَاكَ

اوپه وسیله دهغه نومونو سره چه دعا غوښته ده تانه په هغه سره

بِهَا سَيِّدُ نَا إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

زمونږ سردار اسماعیل علیه السلام

وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا

اوپه وسیله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږ

دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ

سردار داؤد علیه السلام. او په وسیله دهغه نومونو سره

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ

چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار سلیمان علیه السلام

السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ النَّبِيِّ دَعَاكَ

او په وسیله دهغه نومونو سره چه دعاغوښته ده تانه

بِهَاسِيْدُ نَا زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

به هغه سره زمونږه سردار زكريا عليه السلام

وَإِلَّا سَمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا

اوپه وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه

يَجِي عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَإِلَّا سَمَاءَ الَّتِي

سردار يحيى عليه السلام. او په وسيله دهغه نومونو سره چه

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا أَرْمِيَاءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار ارمياء عليه السلام

وَإِلَّا سَمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا

اوپه وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه

شُعْبَاءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَإِلَّا سَمَاءَ الَّتِي

سردار شعباء عليه السلام. او په وسيله دهغه نومونو سره چه

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا الْيَاسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار الياس عليه السلام

وَإِلَّا سَمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا الْيَسَعُ ○

اوپه وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَإِلَّا سَمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

سردار يسع عليه السلام. او په وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته

بِهَاسِيْدُ نَا ذُو الْكِفْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

ده تانه په هغه سره زمونږه سردار ذوالكفل عليه السلام. او په

وَإِلَّا سَمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا

وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار

يُوشَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَإِلَّا سَمَاءَ الَّتِي

يوشع عليه السلام. او په وسيله دهغه نومونو سره چه

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ

دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار عيسى بن مريم عليه

السَّلَامُ ○ وَإِلَّا سَمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا

السلام او په وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره

ذکر اللہ تعالیٰ ۲۲۶ الجزب الخامس

سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 سردار زمونير محمد صلي الله عليه وسلم

وَعَلَىٰ جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ أَنْ  
 او رحمت دوي په ټولو نبيانو او رسولا نوباندې داچه

تُصَلِّيَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ عَدَدَ  
 رحمت اوليرې زمونير په سردار محمد خپل نبي باندې په شمار

مَا خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ  
 دهغه چه تا هغه پيدا كړې دې مخكې دده نه چه وواسمان

مَبْنِيَّةً وَالْأَرْضُ مَدْحِيَّةً وَالْجِبَالُ  
 جوړكړې شوم اوزمكه غوړولې شوم اوغرونه

مُرْسَاةً وَالْبِحَارُ مُجْرَاةً وَالْعُيُونُ  
 برابر كړې شوي اودريابونه جاري كړې شوي اوچينه بهيولې شوم

مُنْفَجِرَةً وَالْأَنْهَارُ مِنْهَمِرَةً وَالشَّمْسُ  
 او نهرونه روان شوي او نمر

ذکر اللہ تعالیٰ ۲۲۷ الجزب الخامس

مُضِيَّةً وَالْقَمَرُ مُضِيًّا وَالْكَوَاكِبُ  
 روپسانه شوم اوسپوړمې رڼا كونكې او ستوري

مُسْتَنْيرَةً كُنْتَ حَيْثُ كُنْتَ لَا يَعْلَمُ  
 خليفونكي. وې ته چرته چه وې نه وه معلومه


أَحَدٌ حَيْثُ كُنْتَ إِلَّا أَنْتَ وَحَدَاكَ لَا  
 هيچاته چه كوم ځانې وې ته؛ سوا دستانه ته ايكي يوه

شَرِيكَ لَكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى  
 نېشته هيڅوك شريك ستا. اے الله رحمت اوليرې په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حِلْمِكَ ۝ وَ  
 سردار زمونير محمد باندې په شمار د حلم خپل او

صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ عِلْمِكَ ۝  
 رحمت او ليرې زمونير په سردار محمد باندې په شمار د علم خپل

وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ ۝  
 اورحمت اوليرې په سردار زمونير محمد باندې په شمار د كلماتو خپل



وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةَ نِعْمَتِكَ

اور رحمت اولیہیے زمونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار دنعمتونو خیلو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَلَّ سَمَوَاتِكَ

اور رحمت اولیہیے پہ سردار زمونیر محمد باندے پہ دکوالی دآسمانونو خیلو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَلَّ أَرْضِكَ

اور رحمت اولیہیے پہ سردار زمونیر محمد باندے پہ دکوالی دزمکے خیلو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَلَّ عَرْشِكَ

اور رحمت اولیہیے زمونیرہ سردار محمد باندے پہ دکوالی دعرش خیلو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زِنَةَ عَرْشِكَ

اور رحمت اولیہیے زمونیرہ سردار محمد باندے پہ وزن دعرش خیلو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةَ مَا جَرَى

اور رحمت اولیہیے زمونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار دھغے چہ جاری شوے دے

بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَصَلِّ عَلَى

ور باندے قلم پہ لوح محفوظ کنیے اور رحمت اولیہیے زمونیرہ سردار

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةَ مَا خَلَقْتَ فِي

محمد باندے پہ شمار دھغہ مخلوق چہ تا پیدا کرے دے پہ خیلو

سَبْعِ سَمَوَاتِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور آسمانونو کنیے اور رحمت اولیہیے زمونیرہ سردار

مُحَمَّدٍ عَدَّةَ مَا أَنْتَ خَالِقٌ فِيهِنَّ

محمد باندے پہ شمار دھغہ مخلوق چہ تہ نے پیدا کونکرے پہ دوی کنیے

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

دقیامت ترورخے پورے پہ ہرہ ورخ کنیے زرخلے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةَ

اور رحمت اولیہیے زمونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار

كُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ سَمَوَاتِكَ إِلَى

دھر شاخکی چہ وریدلے دے ستا داسمانونو ستا

أَرْضِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

زمکے تہ دکومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے دہ دقیامت

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○

تورخ ہورے بہ ہرہ ورخ کنے زرخلے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

او رحمت او لیبرے زمونیر بہ سردار محمد باندمے بہ شمار

مَنْ يُسَبِّحُكَ وَيُهَلِّلُكَ وَيُكَبِّرُكَ وَ

دھفہ چا چہ ستا تسبیح وانی او ستا تھلیل وانی او ستا تکبیر وانی او

يُعَظِّمُكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

ستا تعظیم کوی دکومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے ده د قیامت

يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○

تر ورخ ہورے بہ ہرہ ورخ کنے زرخلے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

او رحمت او لیبرے زمونیر بہ سردار محمد باندمے بہ شمار

أَنْفُسِهِمْ وَأَلْفَاظِهِمْ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

دساہ گانو دھغوی اود الفاظ دھغوی اور رحمت اولیبرے زمونیر بہ سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ نَسَمَةٍ خَلَقْتَهَا فِيهِمْ

محمد باندمے بہ شمار دھروح چہ تا پیدا کرے دے بہ دونی کنے

مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دکومے ورخ نہ چہ تا پیدا کرے ده دنیا د قیامت تر ورخ ہورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

بہ ہرہ ورخ کنے زرخلے. اے اللہ رحمت نازل کرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّحَابِ

زمونیر بہ سردار محمد باندمے بہ شمار دوریخو

الْجَارِيَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

چہ منبرے وہی. او رحمت نازل کرے زمونیر بہ سردار محمد باندمے

عَدَدَ الرِّيحِ الذَّارِيَةِ مِنْ يَوْمِ

بہ شمار دھواگمانو چہ چلن کوی دکومے ورخ نہ چہ تا

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ

دنیا پیدا کرے ده د قیامت تر ورخ ہورے بہ ہرہ ورخ کنے

يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

زرخلی. اے اللہ رحمت اولیہیے زمونیر پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ هَبَّتْ عَلَيْهِ

سردار محمد باندمی پہ شمار دھغہ خیزونو چہ چلیبری ورباندمی

الرِّيَّاحُ وَحَرَكَتُهُ مِنَ الْأَغْصَانِ

ھواگانے او حرکت نے ورکھے دیے ورلہ دھانگونہ

وَالْأَشْجَارِ وَالْأَوْرَاقِ وَالنِّمَارِ وَجَمِيعِ

او ذ اونونہ او دہانپونہ او دمیونہ او تبول ہغہ خہ

مَا خَلَقْتَ عَلَى أَرْضِكَ وَمَا بَيْنَ سَمَوَاتِكَ

چہ تا پیدا کړی دی پہ خپلہ زمکہ باندمی او پہ مینخ داسمانونو خپلو کینے

مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دکومے ورخ نہ چہ تا پیدا کړے دہ دنیا د قیامت تر ورخ پورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

پہ ھرہ ورخ کینے زرخلے. اے اللہ رحمت اولیہیے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ

زمونیر پہ سردار محمد باندمی پہ شمار دسورو د آسمان

مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دکومے ورخ نہ چہ تا پیدا کړے دہ دنیا د قیامت تر ورخ پورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

پہ ھرہ ورخ کینے زرخلے. اے اللہ رحمت اولیہیے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِثْلَ أَرْضِكَ وَمَا

زمونیر پہ سردار محمد باندمی پہ د کوالی د زمکے خپلے کوم چہ ہغے

حَمَلَتْ وَأَقَلَّتْ مِنْ قُدْرَتِكَ ۝

پورته کړی دی او برداشت کړی نے دی ستا پہ قدرت سرہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار محمد باندمی پہ شمار دھغے

مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ بَحَارِكُمْ مِمَّا لَا يَبْعَلُهُ

چہ تا پیدا کړی دی پہ اوو دریا بونو خپلو کینے د کومو چہ علم نیشته

عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ فِيهَا

مکرتاته دے او دکوموچہ تہ پیدا کونکے نے پہ دے کنے

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○

دقیامت ترورخ ہورے پہ ہرہ ورخ کنے زرخلے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اے اللہ رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ شمار

مِائَةِ سَبْعِ بِحَارِكِ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

دہکوالی داوود دریاہونو ستا او رحمت او لیہے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ زِنَةَ سَبْعِ بِحَارِكِ هَذَا حَمَلَتْ

محمد باندے پہ وزن داود دریاہونو ستا ہفہ خیزونوسرہ چہ اوچت کرے

وَأَقَلَّتْ مِنْ قُدْرَتِكَ ○ اللَّهُمَّ وَصَلِّ

نے دی او برداشت کری نے دی دقدرت ستانہ اے اللہ اور رحمت اولیہے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَمْوَاجِ بِحَارِكِ

زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ شمار دچہو د دریاہونو ستا

مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دکومے ورخ نہ چہ تا پیدا کرے دہ دنیا دقیامت ترورخ ہورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○ اللَّهُمَّ وَصَلِّ

پہ ہرہ ورخ کنے زرخلے اے اللہ او رحمت اولیہے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرَّمْلِ الْخَصْ

زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ شمار دشکو اوڈ کوت کانرو

فِي مُسْتَقَرِّ الْأَرْضَيْنِ وَسَهْلَيْهَا وَجِبَالِهَا

پہ خانے دقرار دزمکواودنرے حصے دھے او ڈغرینے حصے دھے

مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دکومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے دہ دنیا دقیامت ترورخ ہورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○ اللَّهُمَّ

پہ ہرہ ورخ کنے زرخلے اے اللہ

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ إِصْطِرَاطِ

اور رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ شمار ڈ خو کیدلو

الْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ وَالْمِلْحَةِ مِنْ يَوْمٍ

دخورد او بو او ذ مالکینو او بو ذ کومے ورخ نه چه تا

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ

بیدا کرے ده دنیا ذ قیامت ترورخ پورے به هره

يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ورخ کنیے زرخلی. او رحمت او لیبرے زمونیر به سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَهُ عَلَى جَدِيدٍ

محمد بانده به شمار دهغو چه تا پیدا کری دی به منخ دزمکه خلی

أَرْضِكَ فِي مُسْتَقَرِّ الْأَرْضِينَ شَرْقَهَا

به منخ ذ محائے قرار دزمکو دهغے دمشرق

وَعَرْبَهَا وَسَهْلَهَا وَجِبَالَهَا وَأَوْدِيَّتَهَا

اودهغے دمغرب اودهغے دهموارے حصے اودغریزے حصے او دهغے

وَطَرِيقَهَا وَعَامِرَهَا وَغَامِرَهَا إِلَى

دخوردونواو ذلارو اودهغے دآبادے حصے او دشارے حصے تر هغه

سَائِرِ مَا خَلَقْتَهُ عَلَيْهَا وَمَا فِيهَا مِنْ

شمیزونوپورے چه تا پیدا کری دی به دے بانده اوخه چه به دے کنیے

حِصَاةٍ وَمَدْرٍ وَحَاجِرٍ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ

دی ذکوت کانرونه اودلو تونه اودکانرونه ذکومے ورخ نه چه تا پیدا کرے ده

الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

دنیا د قیامت ترورخ پورے به هره ورخ کنیے

أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

زرخلی. ای الله رحمت او لیبرے زمونیر به سردار

مُحَمَّدِ النَّبِيِّ عَدَدَ نَبَاتِ الْأَرْضِ

محمد نبی بانده به شمار د شینکو دزمکه

مِنْ قِبَلَتِهَا وَشَرْقَهَا وَعَرْبَهَا وَسَهْلَهَا

دقلیے دهغے زنه اودمشرق دهغے نه اودمغرب دهغے نه اودهموارے دهغے نه

وَجِبَالِهَا وَأَوْدِيَّتِهَا وَأَشْجَارِهَا وَ

او ذ شریزے دهغے نه او ذخوردونو دهغے نه اوداونو دهغے نه او

ثَمَارِهَا وَأَوْرَاقِهَا وَزُرُوعِهَا وَجَمِيعِ

دميوؤدهغه نه او ذبانهو دهغه نه او دفضلونو دهغه نه او دتولو هغه خيزونونه

مَا يَخْرُجُ مِنْ تَبَاتِيهَا وَبَرَكَاتِهَا مِنْ

چه راؤخي د شينكو دهغه نه او ذبركتونو دهغه نه دكومے ورخ نه

يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

چه تا دنيا پيدا كرمے ده د قيامت تر ورخے پورے به

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصَلِّ

هره ورخ كنيے زرخلے. اے الله او رحمت او لبرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ

زمونبر به سردار محمد باندي به شمار دهغه چه تا پيدا كري دي

مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالشَّيَاطِينِ وَمَا

دپيريانونه او دانسانانونه او دشيطانانونه او شه چه ته

أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

پيدا كونكے نے دهغوي نه د قيامت ترورخ پورے به

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصَلِّ

هره ورخ كنيے زرخلے. اے الله او رحمت او لبرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ شَعْرَةٍ

زمونبر به سردار محمد باندي به شمار دهربرو و پسته به

فِي أَيْدِيهِمْ وَفِي وُجُوهِهِمْ وَعَلَى رُءُوسِهِمْ

بلونونو دهغوي كنيے او به مخونو دهغوي كنيے او به سرونو دهغوي كنيے

مُنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

دكله راسے چه تا دنيا پيدا كرمے ده د قيامت ترورخ پورے به

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى

هره ورخ كنيے زرخلے. اے الله او رحمت اولبرے به

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَفَقَاتِ الطَّيْرِ

سردار زمونبر محمد باندي به شمار ذ خانگونو خوزولو دمار غانو

وَطَيْرَانَ الْجِنَّ وَالشَّيَاطِينِ مِنْ يَوْمِ

او ذالو تلو دپيريانو او دشيطانانو ذكومے ورخ نه چه

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ

تا دنیا پیدا کرے وہ د قیامت ترورخ پورے پہ ہرہ

يَوْمِ أَلْفِ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى

ورخ کنے رخلے۔ اے اللہ او رحمت او لیرے زمونیر پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ نَبِيٍّ خَلَقْتَهَا

سردار محمد باندے پہ شمار دھر غناورچہ تا پیدا کرے دے

عَلَى جَدِيدِ أَرْضِكَ مِنْ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ

پہ مخ دزمکے خیلے کہ ورکو تے وی او کہ لونے وی

فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا مِنْ

پہ مشرقونو دزمکے کنے او پہ مغربونو دھے کنے دبنیاد مونہ

أَنْسِهَا وَجَنَّتْهَا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا

او د پیریانونہ او دھغہ غیزونونہ چہ نیشہ معلومات دھے مگر

أَنْتَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ

تاکہ د کومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے وہ د قیامت ترورخ پورے

الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ

پہ ہرہ ورخ کنے زرخلے۔ اے اللہ

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَطَايَاهُمْ

اورحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ شمار دقدمونو دھغوی

عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ

دزمکے پہ مخ باندے د کومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے وہ

الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ

د قیامت ترورخ پورے پہ ہرہ ورخ کنے زرخلے۔

مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اے اللہ او رحمت او لیرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ۝ وَ

محمد باندے پہ شمار دھغہ چاچہ درود لیری پہ ہغہ باندے۔ او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ

رحمت او لیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ شمار دھغہ چا

لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

چہ درود نے نہ دے لیکلے پہ ہغوی باندے . اور رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَطْرِ وَالْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ

محمد باندے پہ شمار دشاخکو او د باران او د شینکو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ كَلْبٍ

او رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ شمار دتولو

شَيْءٍ ۝ اَللّٰهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

خیزونو . اے اللہ او رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ فِي الْبَيْتِ اِذَا اَيْغَشَ ۝ وَصَلِّ

محمد باندے پہ شہہ کنے چہ کلہ راخوره شی اور رحمت اولیہے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي التَّهَارِ اِذَا

زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ ورخ کنے کلہ چہ

تَجَلَّى ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي

اوخلیہی . اور رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ

اَلْاٰخِرَةِ وَالْاٰوَّلِي ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اخرت کنے ہم او پہ دنیا کنے ہم . اور رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ شَابًا زَكِيًّا ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد باندے چہ خوان پاکیزہ وو اور رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ كَهْلًا مَّرْضِيًّا ۝ وَصَلِّ عَلَى

محمد باندے چہ پوخ عمرے پسندیدہ وو اور رحمت اولیہے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُنْذُ كَانَ فِي الْمَهْدِ

سردار زمونیر محمد باندے کلہ چہ ووہفہ پہ خانگو کنے

صَبِيًّا ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ماشوم . اور رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار محمد باندے

حَتّٰى لَا يَبْقَىٰ مِنَ الصَّلٰوةِ شَيْءٌ ۝ اَللّٰهُمَّ

تو دے پورے چہ پاتے نشی د درود نہ خہ شے . اے اللہ

وَاعْطِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا اِلٰهَ مَقَامِ الْمَحْمُوْدِ

او ورکرے زمونیر سردار محمد تہ مقام محمود

الَّذِي وَعَدْتَهُ الَّذِي إِذَا قَالَ صَدَّقْتَهُ

دکرم چہ تاوعدہ کرے ہفہ سرہ ہفہ ہستی چہ کلہ نے خبرہ او کرہ نوتارے

وَإِذَا سَأَلَ أَعْطَيْتَهُ ۝ اللَّهُمَّ وَاَعْظُم

تصدیق او کرو او کلہ دے چہ سوال او کر دنوتاواتہ واکرہ او کبرہ امے اللہ

بُرْهَانَهُ وَشَرَفَ بِنْيَانَهُ وَأَبْلَجَ حُجَّتَهُ

اولو نے کرے دلیل دھغہ او او چتہ کرے بنا دھغہ اورو بنا نہ کرے دلیل دھغہ

وَبَيَّنَ فَضِيلَتَهُ ۝ اللَّهُمَّ وَتَقَبَّلْ

او ظاہر کرے فضیلت دھغہ . امے اللہ او قبول کرے . شفاعت دھغہ

شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ ۝ وَاسْتَعْمَلْنَا سُنَّتَهُ

پہ بارہ دامت خہل کنبے . او مونیرہ روان کرے پہ طریقہ دھغوی

وَتَوَقَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَأَحْشَرْنَا فِي زُمْرَتِهِ

اومونیرہ وفات کرے پہ ملت دھغوی اومونیرہ پاسوس پہ دلہ دھغوی کنبے

وَتَحْتَ لُؤَائِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ رُقَقَائِهِ

او لانڈے دجھنڈے دھغوی او مونیرہ او مگر خوسے ملگری دھغوی .

وَأُورِدْنَا حَوْضَهُ وَأَسْقِنَا بِكَاسِهِ وَ

اومونیرہ ورو لے دھغوی حوض تہ او یہ مونیرہ شکل او کرے دھغوی دجام نہ او

انْفَعْنَا بِمَحَبَّتِهِ ۝ اللَّهُمَّ أَمِينَ ۝ وَ

مونیرتہ فائدہ را کرے دھغوی پہ محبت سرہ . امے اللہ دادعامو قبولہ کرے . او

أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الَّتِي دَعَوْتُكَ بِهَا

سوال کرم لتانہ ستایہ ہفہ نو مونو سرہ چہ مارا ہلے کنبے پہ ہفہ سرہ

أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا

چہ رحمت اولیرہ ز مونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار دھغے چہ

وَصَفْتُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ

صفت نے کرے دے ما او یہ مقدار دھغے چہ نہ دے معلوم علم دھغے مگر تانہ

وَأَنْ تَرْحَمَنِي وَتَتُوبَ عَلَيَّ وَتُعَافِيَنِي

اوداچہ رحم او کرے پہ ماہاندے او توبہ مے قبولہ کرے او عافیت را لہ را کرے

مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبُلُوَاءِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي

دتولو بلاگانوسہ او غمونونہ او داچہ بخینہ او کبرے ماتہ

وَلَوْ أَلَدَيْ وَتَرْحَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

او خمامور پلار ته اور حم و کرے پہ مومنانو سپرو او پہ مومنانو بنخوبانندے

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْبَاءِ مِنْهُمْ

او پہ مسلمنانو سپرو او پہ مسلمنانو بنخوبانندے خوگ کہ ژوندي دي په

وَالْأَمْوَاتِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ

دوی کے او خوگ کہ مرہ دي او دا چه او بخینے بنده خیل فلانے

ابْنِ فُلَانٍ الْمُدْنِبِ الْخَاطِئِ الضَّعِيفِ

خونے ذفلانی چه گنھکار دے، خطا کار دے، کمزور دے او دا چه نظر

وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيْهِ إِنَّكَ غَنُورٌ رَّحِيمٌ

درحمت او کرے پہ ده بانندے بیشک ته ډیر بخینونکے ډیر مهربان ئے

اللَّهُمَّ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

یا اللہ دعامے قبوله کرے امے دعالمونو پروردگار ه . فرماتیلی دي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا چه

قَرَأَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَرَّةً وَاحِدَةً كَتَبَ

اولو ستلو دا درور یوخل نو او به لیکی اللہ تعالیٰ

اللَّهُ لَهُ ثَوَابٌ حَجَّةٍ مَقْبُولَةٍ وَثَوَابٌ

هغه دياره ثواب د قبول شوي حج او ثواب دهغه چا

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِّنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ

چه آزاد کرې غلام د اولاد ذ اسماعیل

عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا

عليه السلام نه، پس فرمائي اللہ تعالیٰ چه دے

مَلِكِي هَذَا عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِي

فرشتو دا یو بنده دے حما د بندگانونه چه زیات درود

أَكْثَرَ الصَّلَاةِ عَلَى حَبِيبِي مُحَمَّدٍ

ئے ویلے دے خمایه حبیب محمد بانندے پس حما دقسم وي په خیل

فَوْعَزَّتِي وَجَلَّالِي وَجُودِي وَمَجْدِي

عزت او په خیل جلال او په خیل سخاوت او په خیلے بزرگنی بانندے .

وَأُرْفَعُنِي لِأَعْظَمِيَّةٍ بِكُلِّ حَرْفٍ صَلَّ

اوپه خپل اوچوالي چه زه به ضرور وړ کړم ده ته په عوض دهر حرف باندي

بِهِ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ وَلِيَأْتِيَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

چه ده درو دليکله دې به هغه سره يو محل په جنت کښه اوده به راځي ماله

تَحْتَ لُؤَاءِ الْحَمْدِ نُورُ وَجْهِهِ كَالْقَمَرِ

دقيامت په ورځ دحمد جهنله دلاندې دده دمخ رنر ابه په شان د خوار لسمه

لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَكَفَّهُ فِي كَفِّ جَيْبِي مُحَمَّدٍ

شبه د سپوږمۍ وي او دده لاس به څما د حبيب محمد په لاس کښ وي

هَذَا الْمَنْ قَالَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ

دا فضيلت هغه چا دپاره دې چه دا او وائي دهره جمع په ورځ

لَهُ هَذَا الْفَضْلُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

هغه د پاره دا فضيلت دې، او الله دلورنې فضل خاوند دې

وَفِي رِوَايَةٍ ۞ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ

اوپه پوروايت کښه دي اے الله زه سوال کوم تانه په وسيله دهغه چا

مَا حَمَلَ كُرْسِيَّكَ مِنْ عَظْمَتِكَ

چه او چته کږه تې ده کرسی ستا ستا دعظمت نه

وَقُدْرَتِكَ وَجَلَالِكَ وَبِهَائِكَ وَ

او ستا دقدرت نه او ستا دجلال نه او ستا د رنرانه او

سُلْطَانِكَ وَبِحَقِّ اسْمِكَ الْمَخْزُونِ

ستا د بادشاهۍ نه او په وسيله دنوم ستا چه خزانه شوه

الْمَكْنُونِ الَّذِي سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَ

او پټ شوه دې هغه چه تانوم ايښه دې په ذات خپل او

أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ وَأَسْتَأْثَرْتُ بِهِ

تا نازل کړه دې په خپل کتاب کښه او تا اختيار کړه دې

فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ إِنَّ تَصَلِّيَ عَلَيَّ

په علم غيب کښه خپل خان سره چه رحمت او ليرې به

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَ

سردار زمونږ محمد باندي چه ستا بنده او رسول دې او

أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ

سوال کوم تانہ ستادھغہ نوم بہ وسیلے سرہ چہ کلہ تہ راویلے شے بہ ہغے

أَجَبْتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ

سرہ نوقبولوالے کومے او کلہ چہ سوال او کرے شی تانہ بہ ہغے سرہ نور کرہ

وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى

کومے او سوال کوم تانہ ستادھغہ نوم بہ وسیلے سرہ چہ تا کینودو بہ

الْبَيْلِ فَأَظْلَمَ

شہہ باندے نو تبارہ شولہ او پہ ورخ باندے نو رنہا شولہ

وَعَلَى السَّمَوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ

او پہ آسمانونو باندے نو قائم شول او پہ

الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ

زمکہ باندے نو قرار ئے او نیوز او پہ غرونو باندے

فَرَسَتْ

نو مضبوط شول او پہ سختہ زمکہ باندے نو نرمہ شولہ

وَعَلَى مَاءِ السَّمَاءِ فَسَكَبَتْ

او پہ اوبود آسمان باندے نور اتونے شوے او پہ وریخ باندے نواو وریدہ او

فَأَمْطَرَتْ

سوال کوم تانہ بہ ہغہ دعاسرہ چہ سوال کرے ووتانہ بہ ہغے سرہ زمونیرہ

مَحَمَّدٌ نَبِيِّكَ

سردار محمد چہ ستا نبی دے او سوال کوم تانہ بہ ہغے سرہ چہ سوال کرے ووتانہ

سَيِّدِنَا أَدَمُ نَبِيِّكَ

بہ ہغے سرہ زمونیرہ سردار آدم چہ ستا نبی ووا سوال کوم تانہ بہ ہغے سرہ

بِهِ أَنْبِيَاءُ وَكَرُسُلِكَ وَمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبُونَ

چہ سوال کرے ووتانہ بہ ہغے سرہ نبیانو ستا اور سولانوستا او مقربو

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

فرشتو ستاد اللہ رحمت دوی پہ ہغوی تہولو باندے او سوال کوم تانہ

بِمَا سَأَلْتُكَ بِهِ أَهْلُ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ

بہ ہغے سرہ چہ سوال کرے ووتانہ بہ ہغے سرہ ستا تہولو تابعدارو بندگانو

أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ  
 چه ته رحمت او ليرے زمونير په سردار محمد باندي او په آل  
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ  
 د سردار زمونير محمد باندي په شمار دهغه مخلوق چه تا پيدا كړې دے  
 قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ مَبْنِيَّةً وَالْأَرْضُ  
 مخكښې ددې نه چه اسمان جوړ كړې شوې وو او زمكه  
 مَطْبِيَّةً وَالْجِبَالُ مَرْسِيَّةً وَالْعَيُونُ  
 غورولې شوې وه او غرونه محكم شوي وو او چينه  
 مَنْفَجِرَةٌ وَالْأَنْهَارُ مِنْهُمْ رَوَّانَةٌ وَالشَّمْسُ  
 جاري شوې وه او نهرونه روان كړې شوي وو او نمر  
 مُضْحِيَّةً وَالْقَمَرُ مُضِيًّا وَالْكَوَاكِبُ مُنِيرَةٌ  
 خليدې وو او سپوږمې روښانه شوې وه او سعوري خليدلي وو  
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ  
 اے الله رحمت او ليرے زمونير په سردار محمد باندي او زمونير

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ عَلِيمِكَ ۝ وَ  
 د سردار محمد په آل باندي په شمار د علم ستا او  
 صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا  
 رحمت او ليرے زمونير په سردار محمد باندي او په آل د سردار زمونير  
 مُحَمَّدٍ عَدَدَ دَحْلَمِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا  
 محمد باندي په شمار د حلم ستا او رحمت او ليرے زمونير په سردار  
 مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ  
 محمد باندي او زمونير د سردار محمد په آل باندي په شمار  
 مَا أَحْصَاهُ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ مِنْ عِلْمِكَ  
 دهغه چه راكبر كړي دي لوح محفوظ د علم ستانه  
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ  
 او رحمت او ليرے زمونير په سردار محمد باندي او په  
 آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرَىٰ بِهِ  
 آل د سردار زمونير محمد باندي په شمار دهغه چه جاري شوې دے

الْقَلَمُ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ عِنْدَكَ ○ وَ

قلم پہ لوح محفوظ کتبے ستا پہ نزد او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

رحمت اولیے زمونیرہ سردار محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیرہ

مُحَمَّدٍ قُلِّ سَمَوَاتِكَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد باندے پہ ذکوالی د آسمانوں اور رحمت اولیے زمونیرہ پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُلِّ

محمد باندے او زمونیرہ د سردار محمد پہ آل باندے پہ ذکوالی

أَرْضِكَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

د زمکے ستا. او رحمت اولیے زمونیرہ پہ سردار محمد باندے

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلَّ مَا أَنْتَ

او زمونیرہ د سردار محمد پہ آل باندے پہ ذکوالی د ہفتہ

خَالِقُهُ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ

چہ تہ نے پیدا کونکے نے ذکومے ورخے نہ چہ تہ دنیا پیدا کرے دہ ترورخ

الْقِيَامَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

د قیامت پورے. اے اللہ رحمت اولیے زمونیرہ پہ سردار محمد باندے

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ صُفُوفِ

او زمونیرہ د سردار محمد پہ آل باندے پہ شمار د صفوں

الْمَلَائِكَةِ وَتَسْبِيحِهِمْ وَتَقْدِيرِهِمْ

د فرشتوں او د ہفتوں د تسبیح او د ہفتوں د تقدیس

وَتَحْمِيدِهِمْ وَتَمْجِيدِهِمْ وَتَكْبِيرِهِمْ وَ

او د ہفتوں د تحمید او د ہفتوں د تمجید او د ہفتوں د تکبیر او

تَهْلِيلِهِمْ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

د ہفتوں د تہلیل د کومے ورخ نہ چہ تہ دنیا پیدا کرے دہ تر

يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ورخ د قیامت پورے. اے اللہ رحمت اولیے زمونیرہ پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

محمد او زمونیرہ د سردار محمد پہ آل باندے پہ شمار

السَّحَابِ لُجَارِيَّةٍ وَالرِّيَّاحِ الدَّارِيَّةِ

دوربخو منابو وهونکو او دھواکانو چلیدونکو

○ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دکومے ورخے نہ چه تا دنیا پیدا کرے ده د قیامت ترورخ پورے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اورحمت او لیرے زمونیر په سردار محمد باندمے او په

أَبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ

آل د سردار زمونیر محمد باندمے په شمار دهر شاخکی

تَقْطُرُ مِنْ سَمَوَاتِكَ إِلَى أَرْضِكَ وَمَا

چه را پروخی ستا د آسمانونونه ستا زمکے طرفته او هغه چه

تَقْطُرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

راخاشی د قیامت ترورخ پورے. ایے الله رحمت او لیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَبِي سَيِّدِنَا

زمونیر په سردار محمد باندمے او په آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتِ الرِّيَّاحُ وَعَدَدَ

محمد باندمے په شمار د هغه چه لیري هواکانے او په شمار د هغه

مَا تَحَرَّكَتِ الْأَشْجَارُ وَالْأَوْراقُ وَ

چه حرکت کوي اونے او بانرے او

الزُّرُوعُ وَجَمِيعِ مَا خَلَقْتَ فِي قَرَارِ

فصلونه او تول هغه خه چه تا پیدا کړي دي په قرار

الْحِفْظِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ

د حفظ کنې دکومے ورخ نه چه تا پیدا کرے ده دنیا ترورخ

الْقِيَامَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ


د قیامت پورے. ایے الله رحمت او لیرے زمونیر په سردار محمد باندمے

وَعَلَى أَبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَطْرِ

او په آل د سردار زمونیر محمد باندمے په شمار د شاخکو

وَالْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ

اوبارانونو او شینکود کومے ورخ نه چه تا پیدا کرے ده



اللَّهُ نَبِيًّا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

دنیاد قیامت ترورخ پورے۔ اے اللہ رحمت اولیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ مِنْ

محمد باندے پہ شمار دستورو پہ آسمان کنے دکومے

يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○

ورخ نہ چہ تا پیدا کرے ده دنیا د قیامت ترورخ پورے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ آل

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي

د سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار دھغے چہ تا پیدا کرے دی پہ

بِحَارِكِ السَّبْعَةِ مِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا

پہ خپلو اوو سمندر ونو کنے دکومو علم چہ هیجا ته نیشته سوا

أَنْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○

دستانه اوپہ شمار دھغے چہ ته نے پیدا کونکے نے دقیامت ترورخ پورے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى

آل د سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار د شکر او کوت کانرو

فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ○

پہ مشرقونو د زمکے کنے او پہ معزبونو دھغے کنے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ

آل د سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار دھغے چہ تا پیدا کرے دی

مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَمَا أَنْتَ خَالِقَةٌ

د پیریانو او انسانانوںہ او کوم چہ ته پیدا کونکے نے



إلى يوم القيمة ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

دقیامت ترورخ پورے۔ اے اللہ رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد باندهے او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندهے

عَدَدَ أَنْفُسِهِمْ وَأَلْفَاظِهِمْ وَالْحَاظِهِمْ

پہ شمار دسہ گانو دھغوی او ذ الفاظو دھغوی او دکتلو دھغوی

مَنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○

د کومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے دہ دقیامت ترورخ پورے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار محمد باندهے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ طَيْرَانِ الْجَنِّ

آل د سردار زمونیر محمد باندهے پہ شمار د آلوتلول د پیریانو

وَالْمَلَائِكَةِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

او د ملائکو د کومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے دہ تر

يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ورخ د قیامت۔ اے اللہ رحمت او لیہے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

محمد باندهے او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندهے پہ شمار

الطُّيُورِ وَالْهَوَامِّ وَعَدَدِ الْوُحُوشِ وَ

دمارغانو او د زمکے د چینجو او پہ شمار د خنکلی ٹخاورو او

الْأَكَامِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ○

پہ شمار د دیرکو د زمکے پہ مشرقونو کنبے او پہ مغربونو کنبے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى


اے اللہ رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار محمد باندهے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَخْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ○

آل د سردار زمونیر محمد باندهے پہ شمار د ژوندو او د مرو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت او لیہے زمونیر پہ سردار محمد باندهے او پہ



اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَظْلَمَ

آل د سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار دھغه خیزونو چه تیاره شوه ده

عَلَيْهِ الْبَلُّ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ مِنْ

وربانده شهبه او روپانه شوه ده وربانده ورخ دکومے

يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○

ورخ نه چه تا دنيا پيدا كرمے ده د قیامت ترورخ پورے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے الله رحمت او لبرے زمونیر په سردار محمد باندے او په

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَّمْشِي

آل د سردار زمونیر محمد باندے په شمار دھغه چاچه گرخی

عَلَى رَجُلَيْنِ وَمَنْ يَّمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ مِنْ

په دوؤ خپوبانده او خوک چه گرخی په خلورو خپو دکومے

يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○

ورخ نه چه تا دنيا پيدا كرمے ده د قیامت ترورخ پورے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے الله رحمت او لبرے زمونیر په سردار محمد باندے او په آل

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ

د سردار زمونیر محمد باندے په شمار دھغه چاچه درودنے لبرے وي په هغه

مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْمَلَائِكَةِ مِنْ

بانده د پیریانو او انسانانوسه او د ملائکونه دکومے ورخ نه

يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○

چه تا دنيا پيدا كرمے ده د قیامت ترورخ پورے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے الله رحمت او لبرے زمونیر په سردار محمد باندے او په

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ○

آل د سردار زمونیر محمد باندے په شمار دھغه چاچه درود لبرے په هغوی

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

بانده اے الله رحمت او لبرے زمونیر په سردار محمد باندے او په

إِلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ

آل دسردار زمونیر محمد باندے پہ شمار دہفہ چاچہ درود نے نہ دے لیکلے

عَلَيْهِ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پہ ہغوی باندے۔ اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَجِبُ أَنْ

او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ واجب دی

يُصَلَّى عَلَيْهِ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

درود لیکل پہ ہغوی باندے۔ اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

محمد باندے او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندے خنکہ چہ

يَتَّبِعُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

بناگیری درود لیکل پہ ہغوی باندے۔ اے اللہ رحمت اولیرے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے

حَتَّى لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِّنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ۞

تر دے چہ باقی باتے نشی ہیخ غیز د درود نہ پہ ہغوی باندے اے اللہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي

رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ رومینو خلقو کنے

الْأَوَّلِينَ ۞ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور رحمت او لیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ روستنو خلقو

فِي الْآخِرِينَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

کنے۔ اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے داوحت

مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَائِكَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۞

مجلس فرشتو کنے د قیامت ترورخ پورے شہ چہ اللہ او غواری ہفہ

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۞

کبیری نیشته دے قوت مگر پہ امداد اللہ سرہ چہ او چت او لوئے دے

الْحَزْبُ السَّادِسُ فِي يَوْمِ السَّبْتِ

شہرم حزب دخالی د ورخے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت او لیجے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ

آل د سردار زمونیر محمد باندے او ورکھے ہفہ تہ وسیلہ

وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ

او فضیلت او درجہ او چتہ او وے رسوے

مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ

مقام محمود تہ دکوم چہ ورسرہ تاوعده کرے دہ بیشکہ

لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ اللَّهُمَّ عَظِّمْ

تہ دوعدے خلاف نہ کوے اے اللہ او چت کرے

شَانَهُ وَبَيِّنْ بُرْهَانَهُ وَأَبْلِجْ حُجَّتَهُ

شان دھغوی او ظاہر کرے دلیل دھغوی اور وبنانہ کرے حجت دھغوی

وَبَيِّنْ فَضِيلَتَهُ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي

او ظاہر کرے فضیلت دھغوی او قبول کرے شفاعت دھغوی پہ

أُمَّتِهِ وَاسْتَعْمِلْنَا لِسُنَّتِهِ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ

امت دھغوی کنجے او مونیر عمل کونکی کرے پہ سنت دھغوی اے

وَيَا رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ اللَّهُمَّ

رب العالمینہ او اے دعرش عظیم رہہ اے اللہ

يَا رَبِّ احْشُرْنَا فِي زَمْرَتِهِ وَتَحْتَ

اے رہہ پاسوے مونیرہ پہ ذلہ دھغوی کنجے او لاندے د جھنڈے دھغوی

لِوَأَيْهِ وَاسْقِنَا بِكَاسِهِ وَانْفَعْنَا بِحَبَّتِهِ

او او خکومے پہ مونیرہ دجام دھغوی نہ او نفع را کرے پہ محبت دھغوی

أَمِينَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ

سرہ دا دعا موقبولہ کرے اے رب العالمینہ اے اللہ اے پروردگارہ

بَلِّغْهُ عَنَّا أَفْضَلَ السَّلَامِ وَأَجْزِهِ عَنَّا

اور سوے ہغوی تہ زمونیر دطرفہ غورہ سلام او بدلہ ورکھے زمونیر دطرفہ

أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهِ النَّبِيَّ عَنْ أُمَّتِهِ

غوره دهغه نه چه تا بدله ور کرے ده په هغه سره یونې ته دخپل امت

يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ إِنِّي

د طرفه اے رب العالمینہ اے الله پروردگارہ بیشک زه سوال کوم

أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَتَتُوبَ

تانه چه بخښنه راته او کرے اور رحم راباندے او کرے او توبه قبوله کرے

عَلَيَّ وَتُعَافِيَنِي مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبُلُوَاءِ

خما او عافیت راله راکرے دتولو بلاکانونه او آفتونونه

الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ وَالنَّازِلِ مِنَ

کوم چه راوځي دزمکه نه او کوم چه راکوزيزي

السَّمَاءِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

د آسمان نه بیشک ته په هر څيز باندے قدرت لرونکے ئے

بِرَحْمَتِكَ وَأَنْ تَغْفِرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

په خپل رحمت سره او دا چه او بخښے مومنان سړي او مومنانې ښځه

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ

او مسلمانان سړي او مسلمانانې ښځه کوم چه ژوندي دي ددوی نه

وَالْأَمْوَاتِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَرْوَاحِهِ

او کوم چه مړه دي او راضي دشي الله دپاکو بښانو

الطَّاهِرَاتِ أَهْمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَضِيَ

د پيغمبرنه چه ميندے دمومنانو دي او راضي دشي الله

اللَّهُ عَنْ أَصْحَابِهِ الْأَعْلَامِ أُمَّةِ الْهُدَى

د هغوی د اصحابو کرامونه کوم چه امامان دهدايت دي

وَمَصَابِيحِ الدُّنْيَا وَعَنِ التَّابِعِينَ وَتَابِعِ

او دپوه ددنیا دي او دتا بعينونه او د تبع

التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

تابعينونه دپاره دهغوی سره احسان نه د بدلے ورځ پورے

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

او ټول تعريفونه ثابت دي الله لره چه پروردگار د عالمونودے

### ابْتِدَاءُ التَّلْثِ التَّالِثِ

ابتدا      د دریم      ثلث

اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَادِ

یا - الله پروردگار دروحوونو او بدنونو

الْبَالِيَةِ أَسْأَلُكَ بِطَاعَةِ الْأَرْوَاحِ الرَّاجِعَةِ

کوم چه وراسته شوي دي سوال کوم تانه په طاعت دروحوونوسره چه رجوع

إِلَى أَجْسَادِهَا وَبِطَاعَةِ الْأَجْسَادِ الْمَلْتَمَةِ

کونکي دي خپلو بدنونو ته او په طاعت د بدنونوسره چه يوځانې شوي دي

بِعُرُوقِهَا وَبِكَلِمَاتِكَ النَّافِذَةِ فِيهِمْ وَ

خپلورگونوسره اوستا په کلماتوسره کوم چه جاري دي په دوی کښې او

أَخَذَكَ الْحَقُّ مِنْهُمْ وَالْخَلَائِقُ بَيْنَ

په وسيله د حق ستا له دوی نه او مخلوقات چه ستا په

يَدَيْكَ يَنْتَظِرُونَ فَصَلِّ قَضَائِكَ وَ

وراندي دي انتظار کوي ستا د حکم فيصلې ته او

يَرْجُونَ رَحْمَتَكَ وَيَخَافُونَ عِقَابَكَ

اميدلري درحمت ستا او يريروي د عذاب ستانه

أَنْ تَجْعَلَ التُّورَفِي بَصْرِي وَذِكْرَكَ

چه ته واچوي نور شما په سترگو کښې او ذکر کول ستا

بِالْيَلِ وَالنَّهَارِ عَلَى لِسَانِي وَعَمَلًا

د شپې او دورځ شما په ژبه او عمل

صَالِحًا فَارْزُقْنِي ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

نيک راته نصيب کړې. اے الله رحمت او ليرې په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى

سردار زمونږ محمد باندي څنگه چه تارحمت ليكلې دې په

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

سردار زمونږ ابراهيم باندي او برکت او ليرې په سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ ۝

محمد باندي څنگه چه تارکت ليكلې دې زمونږ په سردار ابراهيم باندي

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ

اے اللہ نازل کرے رحمتوںہ خیل او برکتوںہ خیل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

زمونیر پہ سردار محمدؐ باندے او پہ آل دسردار زمونیر

مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

محمدؐ باندے خنکے چہ تا نازل کرے دے پہ سردار زمونیر ابراہیمؑ

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

او پہ آل دسردار زمونیر ابراہیمؑ باندے بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوے

مَجِيدٌ ۞ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دبزرگی خاوندنہے . او برکت او لیرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

او پہ آل دسردار زمونیر محمدؐ باندے خنکے چہ تا برکت لیکلے دے

عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پہ سردار زمونیر ابراہیمؑ باندے او پہ آل دسردار زمونیر

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۞ اللَّهُمَّ

ابراہیم باندے بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوے دتریفونو خاوندنہے . اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ

رحمت او لیرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے کوم چہ ستائندہ دے او

رَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ

ستا رسول دے او رحمت او لیرے پہ مومنانو سرو او

الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

پہ مومنانو بنحو او پہ مسلمانانو سرو او مسلمانانو بنحو باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ رحمت او لیرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے او

عَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَ

پہ آل دھغہ پہ شمار دھغے چہ احاطہ کرے دہ ورباندے علم ستا او

أَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَشَهِدْتُ بِهِ مَلِيكَتِكَ

راکیر کری دی کتاب ستا او گواہی کرے دہ پہ ہغے سرہ فرشتو ستا

صَلَاةً دَائِمَةً تَدْوِمُ يَدَايَ وَمُلْكًا اللَّهُ

رحمت دهميشه والي چه هميشه وي سره دهميشه والي دملک دالله

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْعِظَامِ

اي الله زه سوال کوم تا نه په وسيله دلويو نومونو ستا

مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَلَا بِأَسْمَاءِ

کوم چه معلوم دي ماته او کوم چه راته نه دي معلوم او په وسيله دهغه نومونو

الَّتِي سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا

چه ايخي دي تا په خپل ذات باندې کوم چه ماته معلوم دي

وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ○ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

او کوم چه ماته نه دي معلوم داچه رحمت اوليرې په سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ

محمد باندې کوم چه ستانده دې او ستا رسول دې

عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ

په شمار دهغه چه تا پيدا کړي دي مخکې ددې نه چه وو

السَّمَاءِ مَبْنِيَّةً وَالْأَرْضِ مَدْحِيَّةً ○

اسمان جوړشوي او زمکه غوړولې شوي او

الْجِبَالِ مُرْسِيَّةً وَالْعِيُونَ مُنْفَجِرَةً ○

غرونه محکم شوي او چينه جاري کېږي شوي او

الْأَنْهَارُ مُنْهَمِرَةً وَالشَّمْسُ مُشْرِقَةً

بهرونه روان کېږي شوي او نمر خپلې

وَالْقَمَرُ مُضِيئًا وَالْكَوَاكِبُ مُسْتَبِيرَةً

او سپوږمې روڼې شوي او ستوري روښانه شوي

وَالْبِحَارُ مُجْرِيَةً وَالْأَشْجَارُ مُثْمِرَةً ○

او دريا بونه جاري شوي او اونه ميوه دارې شوي

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اي الله رحمت او ليرې په سردار زمونږ محمد باندې په شمار

عَلَيْكَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دعلم ستا او رحمت او ليرې په سردار زمونږ محمد باندې

عَدَّةٌ حَلِيمَةٌ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

په شمار دحلم ستا او رحمت او ليرې په سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى

محمد باندې په شمار دكلماتو ستا او رحمت او ليرې په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ ۝ وَ

سردار زمونږ محمد باندې په شمار د نعمت ستا او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ فَضْلِكَ

رحمت او ليرې په سردار زمونږ محمد باندې په شمار د فضل ستا

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ جُودِكَ

اورحمت اوليرې په سردار زمونږ محمد باندې په شمار داسمانونو ستا

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ سَمَوَاتِكَ

اورحمت اوليرې په سردار زمونږ محمد باندې په شمار د زمكو ستا

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَرْضِكَ

اورحمت اوليرې په سردار زمونږ محمد باندې په شمار د زمكو ستا

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا

او رحمت او ليرې په سردار زمونږ محمد باندې په شمار د شمار د

خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَوَاتِكَ مِنْ مَلَائِكَتِكَ

مخلوق ستا په اوو اسمانونو كښې د ملائكو ستا نه او رحمت او

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا

ليرې په سردار زمونږ محمد باندې په شمار د هغه مخلوق چه

خَلَقْتَ فِي أَرْضِكَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

تا پيدا كړې دې په زمكه خپله كښې د پيريانو او بنياد مونه او د دوى

وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْوَحْشِ وَالطَّيْرِ وَغَيْرِهِمَا ۝

نه سوا دڅنگلي خنا و رونه او دمارغانو نه او سوا د دوى نه اورحمت

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرَى

اوليرې په سردار زمونږ محمد باندې په شمار دهغه چه جاري شوه دې

بِهِ الْقَلَمُ فِي عِلْمِ غَيْبِكَ وَمَا يَجْرِي بِهِ

په هغه سره قلم په علم غيب ستا كښې او په كوم څه چه به جاري كيرې

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

د قیامت ترورخے پورے اور رحمت اولیبرے زمونیرہ سردار محمد باندے

عَدَدَ الْقَطْرِ وَالْمَطَرِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پہ شمار د شاخکو او دباران او رحمت او لیبرے زمونیرہ سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَحْمَدُكَ وَيَشْكُرُكَ

محمد باندے پہ شمار دهغه چاچه ستا ثنا وانی او ستاشکر کوی

وَيُهْلِكُكَ وَيَمْجِدُكَ وَيَشْهَدُ أَنَّكَ

او ستا تهلیل وانی او ستا لونی بیانوی او کواهی ورکوی چه بیشکه

أَنْتَ اللَّهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

ته الله ئے اور رحمت او لیبرے زمونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار

مَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ أَنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ وَ

دهغه چه تا درود لیبرے دے پہ هغه باندے او فرشتو ستا اور رحمت

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى

اولیبرے زمونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار دهغه چاچه درود لیکلے دے

عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پہ هغوی باندے دمخلوق ستا نه او رحمت او لیبرے زمونیرہ سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ مِنْ

محمد باندے پہ شمار دهغه چاچه درود ئے نه دے لیکلے پہ هغوی باندے

خَلْقِكَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ستاد مخلوق نه او رحمت او لیبرے زمونیرہ سردار محمد باندے

عَدَدَ الْجِبَالِ وَالرِّمَالِ وَالْحَصَى ○ وَ

پہ شمار دغرونو او د شکو او د کوت کانرو او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الشَّجَرِ وَ

رحمت او لیبرے زمونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار داونو او

أَوْرَاقِهَا وَالْمَدْرِ وَأَثْقَالِهَا ○ وَصَلِّ عَلَى

دهغه دپانرو او د لوتو او دهغه د بوجونو او رحمت او لیبرے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ سَنَةٍ وَمَا

سردار زمونیرہ محمد باندے پہ شمار دهر کال او هغه چه

تَخْلُقُ فِيهَا وَمَا يَمُوتُ فِيهَا ○ وَصَلِّ

چه ته نه پيدا كوي په دې كښې او هغه چه مري په دې كښې او رحمت

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَخْلُقُ كُلَّ

اوليېر په سردار زمونير محمد باندي په شمار دهغه چاچه ته نه پيدا كوي

يَوْمٍ ○ وَمَا يَمُوتُ فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○

هره ورځ او څه چه مري په دې كښې د قيامت تر ورځ پورې

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

او رحمت او ليرې په سردار زمونير محمد باندي په شمار

السَّحَابِ بِجَارِيَةِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

د روانو وريځو په مينځ د آسمان او د زمكې

وَمَا تَطْرُقُ مِنَ الْمِيَاهِ ○ وَصَلِّ عَلَى

او په شمار دهغه چه راوړي د باران نه او رحمت او ليرې په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّيحِ الْمُسَخَّرَاتِ

سردار زمونير محمد باندي په شمار د با دونو چه فرمان بردار دي

فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ○

په مشرقونو د زمكې كښې او دهغه په مغربونو كښې او

جَوْفِهَا وَقِبْلَتَيْهَا ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

هغه په خيټه كښې او دهغه په قبلې كښې او رحمت او ليرې زمونير په

مُحَمَّدٍ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ ○ وَصَلِّ

سردار محمد باندي په شمار د ستورو د آسمان او رحمت او ليرې

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي

زمونير په سردار محمد باندي په شمار د هغه چه تا پيدا كړي دي په

بِحَارِكِ مِنَ الْحَيَاتَانِ وَالذَّوَابِّ وَالْمِيَاهِ

د ريبونو خپلو كښې د كبانو نه او د چار پايانو نه او داوبو نه

وَالرَّمَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او د شگونه او سوا ددې نه او رحمت او ليرې زمونير په سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ النَّبَاتِ وَالْحُطَّةِ ○ وَ

محمد باندي په شمار د شينكو او د كوت كانرو او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ التَّمَلُّكِ

رحمت او لیبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ شمار د میرو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْمِيَاهِ

او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار د اوبو

الْعَذْبَةِ

خوپرو. او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمد باندے

عَدَدَ الْمِيَاهِ الْمِلْحَةِ

پہ شمار د مالکینو اوبو. او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ

محمد باندے پہ شمار د نعمتونو سنا پہ تول مخلوق خپل او رحمت

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِقْمَتِكَ

اولیبرے پہ سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار د ناراضگی او د عذاب

وَعَذَابِكَ عَلَى مَنْ كَفَرَ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

خپل پہ هغه چا باندے چه کفر نے کرے دے زمونیر پہ سردار محمد باندے

صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صلی الله علیه وسلم. او رحمت او لیبرے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ الدُّنْيَا

سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار د همیشه والی د دنیا

وَالْآخِرَةِ

او د آخرت. او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمد باندے

عَدَدَ مَا دَامَتِ الْخَلَائِقُ فِي الْجَنَّةِ

پہ شمار د هغه چه تر خوبورے وی مخلوق په جنت کنے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا

او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار د هغه

دَامَتِ الْخَلَائِقُ فِي النَّارِ

چه تر خوبورے وی مخلوق په دوزخ کنے او رحمت او لیبرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى قَدْرِ مَا تُحِبُّهُ

زمونیر پہ سردار محمد باندے په مقدار د هغه چه ته نے خوبورے

ذکر الہیئت ۳۰۴ الحزب الثالث

وَتَرْضَاهُ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اوتہ پرے راضی کیجئے۔ اور حمت اولیوں پہ سردار زموں پر محمد باندے

عَلَى قَدْرِ مَا يُحِبُّكَ وَيَرْضَاكَ ○ وَ

پہ مقدار دہغہ چاچہ محبت کوی تاسرہ او راضی ساتی تا او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَبَدًا ○

رحمت او لیوں پہ سردار زموں پر محمد باندے ابدالا بادہ پورے

وَأَنْزِلْهُ الْمُنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ ○ وَ

اونازل کرے ہغہ لہرہ پہ مقربہ رتبہ کنیے خیل خان سرہ او

أَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّفَاعَةَ ○

دیکرے ورلہ وسیلہ او فضیلت او شفاعت

وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ ○ وَأَبْعَثْهُ الْمَقَامَ

او درجہ او چنہ او وے لیوں مقام

المَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَنِي ○ إِنَّكَ لَا

محمودتہ دکوم چہ ورسرہ تا وعدہ کرے دہ بیشکہ تہ نہ کوئے خلاف

ذکر الہیئت ۳۰۵ الحزب الثالث

تُخَلِّفُ الْمِبْعَادَ ○ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

دوعلمے۔ اے اللہ زہ تانہ سوال کوم

بِأَنَّكَ مَا لِكُنِّي وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ ○ وَ

بیشکہ تہ خما مالک نے او خما سردار نے او خما مولانے او

ثِقَتِي ○ وَرَجَائِي ○ أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ الشَّهْرِ

خما تکیہ گاہ نے او خما امید نے زہ سوال کوم تانہ پہ حرمت دمیاشتے

الْحَرَامِ وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ○

دعزت او ذبشار دعزت او د مشعرا لحرام (مزدلفہ)

وَقَبْرِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ أَنْ تَهَبَ

او پہ حرمت د قبر د نبی ستا علیہ السلام چہ را نصیب کرے

لِي مِنْ الْخَيْرِ مَا لَا يَعْلَمُ عِلْمَةَ ○ إِلَّا أَنْتَ

ماتہ د خیرنہ ہغہ چہ د ہغے علم نیشتہ مکر تانہ

وَتَصْرِفَ عَنِّي مِنَ السُّوءِ مَا لَا يَعْلَمُ

او واروں خمانہ ہغہ بدوالے چہ دہغے علم نیشتہ

عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ ۝ اللَّهُمَّ يَا مَنْ وَهَبَ

مکرتاتہ . اے اللہ ! اے ہفہ ذاتہ چہ نصیب دکرو

لِسَيِّدِنَا آدَمَ سَيِّدِنَا شَيْثَ ۝ وَلِسَيِّدِنَا

زمونیر سردار آدم تہ شیث ، او زمونیر سردار

إِبْرَاهِيمَ سَيِّدِنَا إِسْمَاعِيلَ وَسَيِّدِنَا إِسْحٰقَ

ابراہیم تہ دنصیب کرو حضرت اسماعیل او حضرت اسحاق

وَرَدَّ سَيِّدِنَا يُوسُفَ عَلَى سَيِّدِنَا يَعْقُوبَ

او واپس دکرو زمونیر سردار یوسف حضرت یعقوب تہ

وَيَا مَنْ كَشَفَ الْبَلَاءَ عَنْ سَيِّدِنَا

او اے ہفہ ذاتہ چہ لرے دکرو مصیبت د سردار زمونیر

أَيُّوبَ ۝ وَيَا مَنْ رَدَّ سَيِّدِنَا مُوسَىٰ

ایوب او اے ہفہ ذاتہ چہ واپس دکرو زمونیر سردار موسیٰ

إِلَىٰ أُمِّهِ وَيَا زَايِدَ سَيِّدِنَا الْخَضِرَ فِي

خیلے مورثہ او اے زیا تونکیہ د حضرت خضر تہ

عِلْمِهِ ۝ وَيَا مَنْ وَهَبَ لِسَيِّدِنَا دَاوُدَ

بہ علم دہفہ کننے او اے ہفہ ذاتہ چہ ورد دکرو زمونیر سردار داؤد تہ

سَيِّدِنَا سَلِيمَانَ ۝ وَلِسَيِّدِنَا زَكَرِيَّا سَيِّدِنَا

زمونیر سردار سلیمان او زمونیر سردار زکریا تہ زمونیر سردار

يَحْيَىٰ ۝ وَلِسَيِّدِنَا مَرْيَمَ سَيِّدِنَا عِيسَىٰ

یحییٰ ، او زمونیر سردارے بی بی مریم تہ زمونیر سردار عیسیٰ

وَيَا حَافِظَ ابْنَةِ سَيِّدِنَا شُعَيْبَ أَسْأَلُكَ

او اے ساتندونکیہ دلور د حضرت شعیب ، زہ سوال کوم تانہ

أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ


چہ رحمت او لیرے زمونیر بہ سردار محمد باندرے او بہ

جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَيَا مَنْ

تولو نیانو او رسولا نو باندرے ، او اے ہفہ ذاتہ چہ

وَهَبَ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ورد دکرو زمونیر سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہ



وَسَلَّمَ الشَّفَاعَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ

شفاعت او بخینے ماتہ کنناہونہ خُما او پت کرے عیونہ خُما

أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَتَسْتُرَ لِي عُيُوبِي

داچہ او بخینے ماتہ کنناہونہ خُما او پت کرے عیونہ خُما

كُلِّهَا وَتُجِيبَ رَنِي مِنَ النَّارِ وَتُوجِبَ

تبول او پناہ رالہ را کرے ڈھورنہ او واجبہ کرے

لِي رِضْوَانِكَ وَأَمَانِكَ وَغُفْرَانِكَ وَ

مادپارہ رضامنڈی خپلہ او امان خپل او بخیننہ خپلہ او

إِحْسَانِكَ وَتُمَتِّعْنِي فِي جَنَّتِكَ مَعَ

احسان خپل او نفع مندم کرے بہ جنت خپل کنیے سرہ

الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

دھغہ خلقر چہ تا ورباندے انعام کرے دے دیغمبرانونہ

وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ

او صدیقانونہ او شہیدانونہ او صالحانونہ

إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَصَلَّى اللَّهُ

بیشکہ تہ بہ ہر شیز قدرت لرونکے نے . او رحمت داللہ دوی

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مَا زَجَجْتَ

زہونیزہ سردار محمد بانڈے او بہ آل دھغہ ترخوپورے چہ راہورتہ کوی

الرِّيَّاحِ سَحَابًا رُكَّامًا وَذَاقَ كُلُّ ذِي

ہواگانے ورنحے گنڈے او شکی ہر صاحب

رُوحٍ حَمَامًا وَأَوْصَلَ السَّلَامَ لِأَهْلِ

دروح مرگ لہرہ او او رسوے سلام ہغہ خلقوتہ چہ

السَّلَامِ فِي دَارِ السَّلَامِ تَحِيَّةً وَسَلَامًا

دسلام اہل دی بہ دار السلام کنیے چہ ہغہ سلام دزونداو دسلامیتا دعوی

اللَّهُمَّ أَفِرِدْنِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَهُ وَلَا

اے اللہ ماخقلہ کر ہغہ خہ دیارہ جاتازہ فیما کر دے یم ہغے دیارہ اومسحرومہ کرے

تَشْعَلْنِي بِمَا تَكَلَّفْتَنِي بِهِ وَلَا تَحْرِمْنِي

مشغول مہ کرے بہ ہغہ خہ کنیے چہ تکفیل نی دھغہ مارہ بہ ہغہ سرہ اومسحرومہ کرے

دلائل الخیرت ۳۱۰ الحزب الثالث

وَأَنَا أَسْأَلُكَ وَلَا تُعَذِّبْنِي وَأَنَا  
حال داچہ زہ سوال کوم لتانہ او مالہ عذاب مہ راکومے حال داچہ

أَسْتَغْفِرُكَ ۝ ثَلَاثًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ  
زہ بخیننہ غوارم تانہ درے خل داوانی اے اللہ رحمت او لیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ ۝  
زمونیر پہ سردار محمد باندے اودھفوی پہ آل باندے او سلام

اللَّهُمَّ ارِنِي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ  
باللہ زہ سوال کول لتانہ او متوجہ کیرم ستا طرفتہ

مُحِبِّبِكَ الْمُصْطَفَىٰ عِنْدَكَ يَا حَبِيبَنَا  
پہ وسیلے دحبیب ستا چہ غورہ کرے شومے درے ستا پہ نزدایے حبیبہ زمونیر

يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا إِنَّا نَتَوَسَّلُ بِكَ  
اے سردارہ زمونیر محمد مونی و وسیلہ نیسو پتا سرہ پہ طرف

إِلَىٰ رَبِّكَ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الْمَوْلَى الْعَظِيمِ  
درب ستا پس شفاعت او کرے زمونیر دہارہ د عظیم مولیٰ پہ و باندے

دلائل الخیرت ۳۱۱ الحزب الثالث

يَا نِعَمَ الرَّسُولِ الظَّاهِرِ ۝ اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ  
اے بنکلیہ پاکہ رسولہ اے اللہ شفاعت قبول کرے دھغے زمونیر

فِيْنَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ ۝ ثَلَاثًا ۝ وَاجْعَلْنَا  
دہارہ پہ طفیل دمرتے دھغے تاسرہ درے خل داوانی او او گر خومے مونیہ

مِنْ خَيْرِ الْمَصْلُوبِينَ وَالْمَسْلُوبِينَ عَلَيْهِ ۝  
دغورہ درود او سلام لیگونکو نہ پہ ہغہ باندے

وَمِنْ خَيْرِ الْمُقَرَّبِينَ مِنْهُ وَالْوَارِدِينَ  
او د غورہ مقربینو نہ ہغہ سرہ او دورتلونکونہ

عَلَيْهِ وَمِنْ أَحْيَارِ الْمُجِيبِينَ فِيهِ ۝  
پہ ہغہ باندے او دغورہ محبت کونکونہ ہغہ سرہ

وَالْمَحْبُوبِينَ لَدَيْهِ ۝ وَقَرِّحْنَا بِهِ  
او د محبوبانونہ پہ نزد دھغہ او خوشالہ کرے مونیہ ہغہ سرہ

فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ ۝ وَاجْعَلْهُ لَنَا  
پہ میدان د قیامت کنے او او گر خومے ہغہ مونیہ دہارہ

دَلِيلًا إِلَى جَنَّةِ التَّعْوِيرِ بِكَامُونَةٍ وَلَا

دليل دنعمتو نو جنت طرفته بغير ذمحت نه او بغير

مَشَقَّةٍ وَلَا مُنَاقَشَةٍ إِحْسَابًا جَعَلَهُ مُقْبِلًا

دمشقت نه او بغير دستختي دحساب نه او مے گر خوش متوجه كيدونك

عَلَيْنَا ○ وَلَا تَجْعَلْهُ غَاضِبًا عَلَيْنَا ○

به مونير باندمے . او مے ئے گر خوش غصه كونك به مونير باندمے

وَاعْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنا وَلِجَمِيعِ

او بخيشنه او كرمے مونير ته او زمونيره مورپلارته او تولو

الْمُسْلِمِينَ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْمَيِّتِينَ ○

مسلمانانوته كوم چه ژوندي دي په دوي كينے او كوم چه مړه دي او

أَخِرْدَعُونَ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

آخري دعا زمونيره داده چه تول تعريفونه الله دپاره دي چه پروردگار دعالمدے

إِبْتِدَاءُ الرَّبِّعِ الرَّابِعِ

دخلورم رُبع ابتداء

فَأَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا

پس سوال كوم لتانه امے الله امے الله امے الله امے ژونديه. امے

قِيَوْمٍ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ

قائمہ امے دجلال او دعزت خاوندہ نيشته هيخوك معبود

إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ

سوا ذاتانه ته باك ئے بيشكه يمه زهه ذ

الظَّالِمِينَ ○ أَسْأَلُكَ بِمَا حَمَلَ كُرْسِيُّكَ

ظلم كونكونه. سوال كوم تانه په وسيله دهغه چاسره چه او چته كرمے ئے

مِنْ عَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ وَبِهَائِكَ وَ

ده كرسی ستاستا دعظمت نه اوستا د جلال نه او ستا درنرانه او

قُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ وَبِحَقِّ أَسْمَائِكَ

ستا دقدرت نه او ستا دغلبے نه او په حق دنومونو ستا

الْمَخْرُوجَةِ الْمَكْنُونَةِ الْمُطَهَّرَةِ الَّتِي  
چه خراجه شوي دي بت دي پاک دي چه

لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ وَ  
نه دي خیر په هغه باندې هیچوک دمخلوق ستانه او

بِحَقِّ الْأَسْمَاءِ الَّتِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْبَيْلِ  
په حق دهغه نوم ستا چه تا کیبودوپه شی باندې نوهغه

فَاطَمَ وَعَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَعَلَى السَّمَوَاتِ  
تیاره شوه اوپه ورځ باندې نوهغه روښانه شوه اوپه آسمانونو باندې

فَاسْتَقَلَّتْ ○ وَعَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ  
نوهغه مضبوط شول او په زمکه باندې نوهغه قرار اونیوؤ.

وَعَلَى الْبِحَارِ فَانْفَجَرَتْ ○ وَعَلَى الْعُيُونِ  
او په دریا بونو باندې نو هغه جاري شول او په جینو باندې

فَنَبَعَتْ ○ وَعَلَى السَّحَابِ فَامْطَرَتْ ○  
نو هغه راؤ خوتکیده او په وریخو باندې نوهغه اووریده

وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جِهَةِ  
اوسوال کوم تانه په اوسیلې دهغه نومونوسره چه لیکلي شوي دي په تندي

سَيِّدِنَا جَبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ  
د سردار زمونیر جبریل علیه السلام. او په هغه نومونو سره چه

الْمَكْتُوبَةِ فِي جِهَةِ سَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ  
لیکلي شوي دي په تندي د سردار زمونیر اسرافیل

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَعَلَى جَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ  
علیه السلام او په تمامو فرشتو اوسوال

وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ  
کوم تانه په وسیلې دهغه نومونو چه لیکلي شوي دي چا پیره دعرش نه

وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ ○  
اوپه هغه نومونوسره چه لیکلي شوي دي چا پیره دکرسی نه. اوسوال

وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي  
کوم تانه په وسیلې دهغه نوم سره چه لونه دے اودیر لونه دے کوم چه

سَمَّيْتْ بِهٖ نَفْسَكَ وَاسْأَلْكَ بِحَقِّ اسْمَائِكَ

تا اينه دے په خان خپل او سوال کوم تانه په وسيله دنو مونو ستا

كُلُّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ۝ وَ

ټولو کوم چه ماته معلوم دي او کوم چه معلوم نه دي او سوال کوم

اسْأَلْكَ يَا لَأَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا

تانه په وسيله دهغه نومونو ستا چه ته رابلله نې په هغه سره سردار زمونږ

أَدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَيَا لَأَسْمَاءَ الَّتِي

آدم عليه السلام او په هغه نومونو سره

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ

چه ته رابلله نې په هغه سره سردار زمونږ نوح عليه السلام

وَيَا لَأَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا

او په هغه نومونو سره چه ته رابلله نې په هغه سره سردار زمونږ

صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَيَا لَأَسْمَاءَ الَّتِي

صالح عليه السلام او په هغه نومونو سره

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

چه ته رابلله نې په هغه سره سردار زمونږ يعقوب عليه السلام

وَيَا لَأَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُوسُفُ

او په هغه نومونو سره چه ته رابلله نې په هغه سره سردار زمونږ يوسف

عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَيَا لَأَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام او په هغه نومونو سره چه ته رابلله نې

بِهَا سَيِّدُنَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَ

په هغه سره سردار زمونږ يوسف عليه السلام او

يَا لَأَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا مُوسَى


په هغه نومونو سره چه ته رابلله نې په هغه سره سردار زمونږ موسي

عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَيَا لَأَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام او په هغه نومونو سره چه ته رابلله نې

بِهَا سَيِّدُنَا هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَ

په هغه سره سردار زمونږ هارون عليه السلام او



يَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَاشِعِيبُ

به هغه نومونوسره چه ته رابلله نه په هغه سره سردار زمونږ شعيب

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام. او په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته

بِهَاسَيْدُ نَا اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

په هغه سره سردار زمونږ ابراهيم عليه السلام

وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا اِسْمَاعِيلُ

اوپه هغه نومونوسره چه رابلله نه ته په هغه سره سردار اسماعيل

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام او په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته

بِهَاسَيْدُ نَا دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ

په هغه سره زمونږه سردار داود عليه السلام او

يَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا سَلِيمُنُ

په هغه نومونوسره چه رابلله نه ته په هغه سره زمونږ سردار سليمان

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام. او په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته

بِهَاسَيْدُ نَا زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ

په هغه سره زمونږه سردار زكريا عليه السلام او

يَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا يَحْيَى

په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته په هغه سره سردار زمونږ يحيي

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام. او په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته

بِهَاسَيْدُ نَا يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ

په هغه سره زمونږه سردار يوسف عليه السلام او

يَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا الْخَضِرُ

په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته په هغه سره سردار زمونږ خضر

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام. او په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته

يَهَاسِيْدُ نَا اِلْيَاسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَ  
 بِه هغه سره زمونير سردار الياس عليه السلام او  
 بِالْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ يَهَاسِيْدُ نَا اِلْيَسَعُ  
 به هغه نومونوسره چه رابللے نے ته په هغه سره زمونيره سردار ايليسع  
 عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَ بِالْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ  
 عليه السلام او په هغه نومونو سره چه رابللے نے ته  
 يَهَاسِيْدُ نَا ذُو الْكِفْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝  
 به هغه سره زمونير سردار ذوالكفل عليه السلام  
 وَ بِالْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ يَهَاسِيْدُ نَا  
 او په هغه نومونو سره چه رابللے نے ته په هغه سره زمونير سردار  
 عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَ بِالْاَسْمَاءِ الَّتِي  
 عيسي عليه السلام او په هغه نومونو سره چه  
 دَعَاكَ يَهَاسِيْدُ نَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  
 رابللے نے ته په هغه سره زمونير سردار محمد صلي الله عليه

وَسَلَّمَ نَبِيُّكَ وَرَسُولُكَ وَحَبِيْبُكَ  
 وسلم چه ستا نبي دے او ستا رسول دے او ستا حبيب دے  
 وَصَفِيُّكَ يَا مَنْ قَالَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ  
 اوستا غوره كرهے شوعے دے. اے هغه ذاته چه وئيلے نے دي او وينا دهغه  
 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ وَ كَا  
 حقه ده" او الله پيدا كرهے بي تاسو او كوم خه چه تاسو كوي. " او نه  
 يَصْدُرُ عَنْ أَحَدٍ مِّنْ عِبِيدِهِ قَوْلٌ وَ  
 صادر يوري دهيجانه په بندگانو دهغه كنهے نه خه قول او  
 لَا فِعْلٌ وَلَا حَرَكَةٌ وَلَا سُكُونٌ إِلَّا  
 نه خه فعل او نه حركت او نه سكون مگر هغه دمخكش  
 وَقَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ  
 نه وي په علم دهغه كنهے او په قضا دهغه كنهے او په قدر دهغه كنهے  
 كَيْفَ يَكُونُ كَمَا أَلْهَمْتَنِي وَقَضَيْتَ  
 چه خرنك به وي خنكه چه تالهام وكره ماته او حكم داو كرو

لِيَجْمَعِ هَذَا الْكِتَابَ وَيَسِّرَتْ عَلَيَّ

ما دباره په جمع کولو ددې کتاب او آسان ذکره راله

فِيهِ الطَّرِيقَ وَالْأَسْبَابَ وَنَفَيْتَ عَنِّي

په دې کتنې طريقه او اسباب او متاؤ ذکره خما

قَلْبِي فِي هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ الشَّكَّ

دزړه نه په باره ددې نبي کریم کتنې شک

وَالْإِسْرَافَ وَغَلَبْتَ حُبَّهُ عِنْدِي عَلَى

او شبه او غالب ذکره محبت دهغه خما په زړه

حُبِّ جَمِيعِ الْأَقْرَبَاءِ وَالْأَحْبَاءِ أَسْأَلُكَ

محبت دتولو اقرباؤ او دوستانو سوال کوم لسانه

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ أَنْ تَرزُقَنِي وَ

ای الله ای الله ای الله چه را نصیب کرې ماته او هر هغه کس ته چه محبت

كُلِّ مَنْ أَحَبَّهُ وَاتَّبَعَهُ شَفَاعَتَهُ وَ

ساتي حضرت سره او دهغوی پیروي کوي شفاعت دهغوی او

مُرَافَقَتَهُ يَوْمَ الْحِسَابِ مِنْ غَيْرِ مُنَاقَشَةٍ

ملکرتیا دهغوی د حساب په ورځ بغیر د سختي نه

وَلَا عَذَابٍ وَلَا تَوْبِيخٍ وَلَا عِتَابٍ وَ

او بغیر د عذاب نه او بغیر د رتنې نه او بغیر د زورنې نه او

أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَتَسْتُرَ عَيْبِي يَا

داچه او بخښې ماته گناهونه خما او پټ کرې عیبونه خما ای

وَهَابُ يَا غَفَّارُ ○ وَأَنْ تُنْعِمَ عَلَيَّ بِالنَّظَرِ

دور کرې خاوند ای بخښونکيه او داچه نعمت راباندې وکرې دنظر کولو

إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ فِي جُمْلَةِ الْأَحْبَابِ

خیل ذات مبارک ته سره د تولو دوستانو

يَوْمَ الْمَزِيدِ وَالثَّوَابِ وَأَنْ تَتَقَبَّلَ

په ورځ د زیاتي انعام او د ثواب او داچه قبول کرې

مِنِّي عَمَلِي وَأَنْ تَعْفُو عَمَّا أَحَاطَ بِعِلْمِكَ

خمانه عمل خما او داچه معاف کرې هغه چه احاطه کرې ده علم ستا

بِهِ مِنْ حَظِيَّتِي وَنَسِيَانِي وَرَلِي وَ

بہ ہفتے سرہ خما دخطاگانو او خما ڈھیرو او خما دلغزش او داچہ

أَنْ تُبَلِّغَنِي مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِهُ وَالسَّلَامِ

اورسوے ما دھفوی دقبر زیارت لہ او سلام کولو لہ بہ ہفوی بانڈے

عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِيهِ غَايَةَ آمَلِي بِمَنِّكَ

اودھفوی بہ دوارو ملگرو بانڈے انتہائی امیدخما دے سرہ د احسان

وَفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا رَوْوُ

ستاو دفضل ستا او دستخاوت ستا او دکرم ستا اے ڈیر مہربانہ اے

يَا رَحِيمُ يَا وَدِي ۝ وَأَنْ تُجَاوِزَ عَنِّي

ڈیررحم کونکیہ اے مددگار او داچہ بدلہ ور کرے ہفوی تہ خما د طرفہ

وَعَنْ كُلِّ مَنْ آمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ مِنْ

اودھرہفہ چاد طرفہ چہ ایمان تے راورے دے بہ ہفوی بانڈے او پیروینے

الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ

کرے دہ دمسلماتو سرونہ او مسلماتو بنخو نہ کوم چہ ژوندی دی دھفوی تہ

وَالْأَمْوَاتِ أَفْضَلَ وَأَتَمَّ وَأَعَمَّ مَا

او کوم چہ سرہ دی ڈیر غورہ او ڈیر مکمل او ڈیر عام ہفتہ چہ

جَازَيْتَ بِهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ يَا قَوِيُّ

جزاور کرے دہ تا بہ ہفتے سرہ یوکس تہ دمخلوق خیل نہ اے طاقتور

يَا عَزِيزُ يَا عَلِيُّ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مَا

اے غالبہ اے او چتہ او سوال کوم لتانہ اے اللہ بہ حق دھفہ چہ

أَقْسَمْتُ بِهِ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

چہ وسیلہ م نیولے دہ بہ ہفتے سرہ تاتہ چہ درود اولیکہ بہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

محمد بانڈے او بہ آل د سردار زمونیر محمد بانڈے بہ شمار

مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ

دھفے چہ تا پیدا کری دی مخکنے ددے نہ چہ آسمان

مَبْنِيَّةً وَالْأَرْضُ مَدْحِيَّةً وَالْجِبَالُ

جور شوے وو او زمکہ غور بدلے وہ او غرونہ

عُلُوِيَّةٌ وَالْعِيُونُ مُنْفَجِرَةٌ وَالْبَحَارُ

او چت شوي وو او چينے جاري شوي وے او دريا بولہ

مُسَخَّرَةٌ وَالْأَنْهَارُ مِنْهُمْ رَمَّةٌ وَالشَّمْسُ

تابع د حکم وو او نھرونه روان شوي وو اونھ

مُضِيَّةٌ وَالْقَمَرُ مُضِيئًا وَالنَّجْمُ مُنِيرًا

رو بيا نه شوي وو او سپوږمي نوراني شوي وه او ستوري خليلدي وو

وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ حَيْثُ تَكُونُ إِلَّا أَنْتَ

اونه وه معلومه هيجاته چه څنگه دي مگر تاته او داچه رحمت او ليرے

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ كَلَامِكَ

په هغوي باندي او دهغوي په آل باندي په شمار د کلام خپل او داچه

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ آيَاتِ

رحمت اوليرے په هغوي باندي او دهغوي په آل باندي په شمار د آيتونو

الْقُرْآنِ وَحُرُوفِهِ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ

د قرآن او دھرفونو دهغه او داچه رحمت او ليرے په هغوي باندي او

عَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَأَنْ

په آل دهغوي په شمار دهغه چاچه درو دليري په هغوي باندي او داچه رحمت

تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ

اوليرے په هغوي باندي او په آل دهغوي په شمار دهغه چاچه درود نه ليري

عَلَيْهِ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ مِنْ

په هغوي باندي او داچه رحمت اوليرے په هغوي باندي او په آل دهغوي په

أَرْضِكَ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ

د کوالي د زمکے ستا او داچه رحمت اوليرے په هغوي باندي او په آل دهغوي

عَدَدَ مَا جَرَىٰ بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمَّ الْكِتَابِ

په شمار دهغه چه جاري شوي دے وړ باندي قلم په لوح محفوظ کښے

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَا

او داچه رحمت او ليرے په هغوي باندي او په آل دهغوي په شمار دهغه

خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَوَاتِكَ ○ وَأَنْ

چه تا پيدا کړي دي په اوو آسمانونو خپلو کښے او داچه

تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَّةٌ مَّا أَنْتَ خَالِقُهُ

رحمت اولیوں پہ ہغوی باندے او پہ آل دھغوی پہ شمار دھغہ خیزو نو چہ

فِيهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ

تہ خالق دھغوی نے پہ دوی کنیے دقیامت ترورخ پورے پہ ہرہ ورخ کنیے

مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَّةٌ

زرخلے او داچہ رحمت اولیوں پہ ہغوی باندے او پہ آل دھغوی پہ شمار

قَطْرِ الْمَطَرِ وَكُلِّ قَطْرَةٍ فَطَرْتُ مِنْ

دشاخکو دبارون او دھر ہغہ شاخکی چہ راوریدلے دے ستا

سَمَاوِكَ إِلَىٰ أَرْضِكَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ

دآسمان نہ ستا زمکے طرفتہ د کومے ورخ نہ چہ تا پیدا کرے دہ

الدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

دنیا د قیامت تر ورخ پورے پہ ہر ورخ کنیے

أَلْفَ مَرَّةٍ ۝

زہ خلیے

الْحَزْبُ السَّابِعُ فِي يَوْمِ الْاِحْدَىٰ

اوم حزب د اتوار دورخے

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَّةٌ مِّنْ سَبْحِكَ

اوداچہ درود اولیوں پہ ہغوی باندے او دھغوی پہ آل باندے پہ شمار دھغہ

وَقَدْ سَكَتَ وَسَجَدَ لَكَ وَعَظَّمَكَ مِنْ

چاچہ ستا سبیح نے ویلے دے اوستاپا کوالے نے بیان کرے دے اوتانہ نے سجدہ

يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

کرے دہ اوستالونی نے بیان کرے دہ دھغے ورخ راسے چہ تانیا پیدا کرے دہ

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ

دقیامت ترورخ پورے پہ ہرہ ورخ کنیے زرخلے او داچہ رحمت اولیوں پہ

وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَّةٌ كُلِّ سَنَةٍ خَلَقْتَهُمْ فِيهَا

ہغوی باندے او دھغوی پہ آل باندے پہ شمار دھر کال چہ تا پیدا کرے دی

مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ہغوی پہ ہغے کنیے دھغہ ورخ نہ چہ تانیا پیدا کرے دہ دقیامت ترورخ پورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ

به هره ورخ کنی زرخلی. او داچه رحمت اولیبر

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلَيْهِ عَدَدَ السَّمَاوَاتِ الْجَارِيَةِ ۝

به هغوی باندی او دهغوی په آل باندی به شمار دروانی ورین

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلَيْهِ عَدَدَ الرِّيَّاحِ

او داچه رحمت اولیبر به هغوی باندی به شمار دبا دونو

الدَّارِيَةِ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَىٰ

الوتونکو دکومی ورخ نه چه تا دنیا پیدا کره ده تر

يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝

ورخ قیامت پور به هره ورخ کنی زرخلی.

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلَيْهِ عَدَدَ مَا

اوداچه رحمت اولیبر به هغوی باندی او په آل دهغوی به شمار دهغه

هَبَّتِ الرِّيَّاحُ عَلَيْهِ وَحَرَّكَتُهُ مِنْ

غیزونو چه چلیبری هواکانی به هغه باندی.

الْأَغْصَانِ وَالْأَشْجَارِ وَأوراقِ الثَّمَرِ

دشانگونه او داونو نه او د پا نونو او دمیونو نه

وَالْأَزْهَارِ وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ عَلَىٰ قَرَارِ

او د گلونو نه او په شمار دهغه چه تا پیدا کری دی په مخ

أَرْضِكَ وَمَا بَيْنَ سَمَوَاتِكَ مِنْ يَوْمٍ

دزمکنی ستا او په مینخ د اسمانونو ستا کنی دکومی ورخ نه چه

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ

تا پیدا کره ده دنیا دقیامت تر ورخ پور به هره

يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ

ورخ کنی زرخلی. او داچه رحمت اولیبر به هغوی باندی او

عَلَىٰ إِلَيْهِ عَدَدَ مَا وَجَّحَ بِحَارِكَ مِنْ يَوْمٍ

په آل دهغوی به شمار دچو دریاونو ستا دکومی ورخ نه

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ

چه تا دنیا پیدا کره ده د قیامت تر ورخ پور به هره

يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ

ورخ كنبے زرخلے . او داچه رحمت او لیبے په هغوی بانده او

عَلَى إِلِهِ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى وَكُلِّ حَجْرٍ

په آل دهغوی په شمار د شكواو كوت كانرو او دهر كانبري

وَمَدْرٍ خَلَقْتَهُ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ

او دهرے لوتیر چه تا پیدا كمرے ده دزمكے په مشرقونو كنبے او

مَغَارِ بِهَا سَهْلُهَا وَجِبَالُهَا وَأُودِيَّتُهَا

دهغے په مغربونو كنبے دهغے په نومه حصے كنبے او دهغے په عزونو كنبے او دهغے په

مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

خوردونو كنبید كومے ورخ نه چه تا دنیا پیدا كمرے ده دقیاقت تر ورخ پورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ

په هره ورخ كنبے زرخلے . او داچه رحمت او لیبے

عَلَيْهِ وَعَلَى إِلِهِ عَدَدَ نَبَاتِ الْأَرْضِ

په هغوی بانده او په آل دهغوی په شمار د شینكو دزمكے

فِي قِبَلَتِهَا وَجُوفِهَا وَشَرْقِهَا وَغَرْبِهَا وَ

په دقلے دهغے كنبے او په خبته دهغے كنبے او دمشرق دهغے كنبے او

سَهْلُهَا وَجِبَالُهَا مِنْ شَجَرٍ وَشَمْرٍ وَ

دمغرب دهغے كنبے او په نومه دهغے كنبے او په غرونو دهغے كنبے د اونونه

أُورَاقٍ وَزُرْعٍ وَجَمِيعِ مَا أَخْرَجَتْ وَمَا

او دمیونونه او دپانرونه او دفصلونونه او په شمار دتولوهغه خیزونو چه ترینه راوتی

يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ نَبَاتِهَا وَبَرَكَاتِهَا مِنْ

دی او هغه چه راؤخی به ددے نه د شینكو ددے نه او دبر كتونو ددے نه

يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

د كومے ورخے نه چه تا پیدا كمرے ده دنیا د قیاقت تر ورخ پورے په

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ

هره ورخ كنبے زرخلے . او داچه رحمت او لیبے په هغوی بانده

وَعَلَى إِلِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْإِنْسِ

اوپه آل دهغوی په شمار دهغے چه تا پیدا كری دی د بنیادمونو

وَالْجِنَّ وَالشَّيَاطِينَ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ

او دهریانو نه او دشیطانانو نه او په شمار دهغه څه چه ته پیدا کونکے نے

مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

دهغوی نه د قیامت تر ورځ پورے په هره ورځ کنه

أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى

زرخلے . او داچه رحمت او لیرے په هغوی باندے او په آل دهغوی

إِلَيْهِ عَدَدَ كُلِّ شَعْرَةٍ فِي أَسْفَلِ أَرْجُلِهِمْ وَ

په شمار دهر وینته په بدنونو دهغوی کنه او په مخونو دهغوی

وَجُوهِهِمْ وَعَلَى رُءُوسِهِمْ مِمَّا خَلَقْتَ

کنه او په سرونو دهغوی کنه د کوم وخت نه چه تا پیدا کرے ده

الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

دنیا د قیامت تر ورځ پورے په هره ورځ کنه

أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى

زرخلے . او داچه رحمت او لیرے په هغوی باندے او په

إِلَيْهِ عَدَدَ أَنْفُسِهِمْ وَالْفَاظِهِمْ وَالْحَاظِهِمْ

آل دهغوی په شمار دساه گانو دهغوی او ذالفاظ دهغوی او ذکنلو دهغوی

مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دکومے ورځ نه چه تا دنیا پیدا کرے ده د قیامت تر ورځ پورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ

په هره ورځ کنه زرخلے . او داچه رحمت او لیرے

عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَيْهِ عَدَدَ طَيْرَانِ الْجَنِّ وَ

په هغوی باندے او دهغوی په آل باندے په شمار دالو تلو د پیریانو او

خَفَقَانَ الْأَنْسِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ

دحرکتونو د انسانانو د کومے ورځ نه چه تا دنیا

الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

پیدا کرے ده د قیامت تر ورځ پورے په هره ورځ کنه

أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى

زرخلے . او داچه رحمت او لیرے په هغوی باندے او په

إِلَهُ عَدَدَ كُلِّ بَهِيمَةٍ خَلَقْتَهَا عَلَىٰ أَنْصِكَ

آل دهغوی په شمار دهر خلورخه لرونکی خاروي چه تا پیدا کړي دي په

صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ

خپله زمکه که ورکوته وي که لونه وي د زمکه په مشرقونو کښه

وَمَغَارِبِهَا مِمَّا عِلْمٌ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمُهُ

اودهغه په مغربونو کښه کوم چه معلوم شوي دي اود کومو علم چه نسته

إِلَّا أَنْتَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَىٰ

چاته مکر تاته دغه د کومو ورخ نه چه تا دنيا پیدا کړه دهر

يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

ورخ د قیامت په هره ورخ کښه زرخله اوداچه رحمت اولیر په

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلِهِ عَدَدَ مَنْ

دهغوی او په آل دهغوی په شمار دهغه چا چه درود نه لیکله دغه په

صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَعَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَ

دهغوی بانده او په شمار دهغه چاچه درود نه دغه لیکله په هغوی او

عَدَدَ مَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

په شمار دهغه چاچه درود نه لیکلي په هغوی بانده د قیامت تر ورخ پور په

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ

هره ورخ کښه زرخله او داچه رحمت اولیر په هغوی

وَعَلَىٰ إِلِهِ عَدَدَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ وَ

بانده او په آل دهغوی په شمار د ژوند او د مړو او

عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ جِبْتَانٍ وَطَيْرٍ

په شمار دهغه کبانو چه تا پیدا کړي دي اود مارغانو

وَنَمْلِ وَنَحْلِ وَحَشْرَاتٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ

اودمیر او د شاتو مچو اود زميني چينجو اوداچه رحمت اولیر په هغوی

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلِهِ فِي الْبَلِّ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ

بانده او په آل دهغوی په شپه کښه کله چه راخوره شي او په ورخ کښه

إِذَا تَجَلَّى ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلِهِ

کله چه روښانه شي اوداچه رحمت اولیر په هغوی بانده او په آل دهغوی



مَنْ رُفِقَ بِهِ وَأَنْ تُورِدَ نَاحِوْضَهُ وَأَنْ

دهغوی د ملکرونه او داچه ورولے مونیره دهغوی حوض ته او داچه

تَسْقِيْنَا بِكَاسِهِ وَأَنْ تَتَفَعَّلَ بِمَحَبَّتِهِ وَ

او خکوم په مونیره دجام دهغوی نه او داچه نفع را کره مونیره په محبت

أَنْ تَتُوبَ عَلَيْنَا وَأَنْ تُعَافِيَنَا مِنْ

دهغوی سره او داچه توبه قبول کره زموږ او داچه عافیت را کره مونیره ته

جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبُؤْسِ وَالْفِتَنِ مَا ظَهَرَ

د ټول بلاکانو او آفتونو او د فتنو کوم په ظاهره شوم دي

مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَأَنْ تُرْحَمَنَا وَأَنْ

په هغه کښه او کوم په پټه دي او داچه رحم او کره په مونیره او داچه

تَعْفُوَعْنَا وَتَغْفِرَ لَنَا وَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ

معافي او کره مونیره او بخښنه او کره مونیره او ټولو مومنانو سره ته

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

او مومنانو ښځوته او مسلمانانو سروته او مسلمانانو ښځوته

الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

کوم چه ژوندي دي په هغوی کښه او کوم چه مړه دي او ټول تعريفونه خاص

رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ

الله دپاره دي چه رب دمخلو قاتو ده. او هغه کافي ده مادپاره او ډیر ښه

الْوَكِيلُ وَالْأَحْوَلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

کلوساز ده او نښته ده طاعت گناه نه دېچ کېدللو نښته ده قوت دیکي کولو مگر

الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

په توفیق دالله سره چه ډیرو لوت او ډیرو کم ده. ای الله رحمت اولیر په سردار زموږ

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا سَجَّتِ

محمداڼه او په آل سردار زموږ محمداڼه ترخوپور چه اولونه کوي

الْحَمَائِمُ وَحَمَتِ الْخَوَائِمِ وَسَرَّحَتِ الْبَهَائِمِ

کونتره او چکره وهي مار غان او خریدل کوي بخاروي

وَتَفَعَّلَتِ التَّمَائِمِ وَشَدَّتِ الْعَمَائِمُ وَ

او نفع ورکوي تعویزونه او تره کيږي پټکي او

ذکر آل نبوت ۳۲۲

نَمَتِ النَّوَائِمِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا  
 او تو کبیري تو کیلونکی خیزونه. اے اللہ رحمت اولیبرے په سردار زمونیر  
 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا أَجْلَى  
 محمد باندمے او په آل د سردار زمونیر محمد باندمے ترخوپورے چه رویتانه  
 الْأَصْبَاحِ وَهَبَّتِ الرِّيحُ وَدَبَّتِ الْأَشْيَاحُ  
 کبیري صبا او چلیبري هواگانے او خوزي بدنونه  
 وَتَعَاقَبَ الْغَدُّ وَالرَّوَّاحُ وَتَقَلَّدَتِ  
 او پرله پسے راخي سحر او ماينام او زوړندولے شي  
 الصِّفَا حُ وَأَعْتَقَلَتِ الرِّمَاحُ وَصَحَّتِ  
 نورے او پریبودے کبیري نیزمے او درست اوسې  
 الْأَجْسَادُ وَالْأَرْوَاحُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ  
 بدنونه او روحونه. اے اللہ رحمت اولیبرے  
 عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا  
 زمونیر په سردار محمد باندمے او په آل د سردار زمونیر

الآل النبوت ۳۲۳

مُحَمَّدٍ مَا دَارَتْ الْأَفْلاكُ وَدَجَّتِ  
 محمد باندمے ترخوپورے چه گردش کوي آسمانونه او تورے اوسې  
 الْأَحْلاكُ وَسَبَّحَتِ الْأَمْلاكُ ۝  
 تبارے شے او تسبیح کوي ملائک  
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
 اے اللہ رحمت اولیبرے په سردار زمونیر محمد باندمے او په  
 آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى  
 آل د سردار زمونیر محمد باندمے څنگه چه تا رحمت لیبرے دے په  
 سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
 سردار زمونیر ابراهیم باندمے او برکت اولیبرے په سردار زمونیر محمد باندمے  
 وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ  
 او په آل د سردار زمونیر محمد باندمے څنگه چه برکت لیبرے دے تا  
 عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ  
 په سردار زمونیر ابراهیم باندمے په عالمونکے بیشکه ته

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

دیرستایلی شوم دیزرگی والاتر. اے اللہ رحمت اولیومے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّا

محمد باندمے او په آل د سردار زمونیر محمد باندمے تر خو پورے

طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَمَا صَلَّيْتَ الْخُمْسُ

چه نمرختل کوی او ترخو پورے چه کولے شی پنخه مونخونه

وَمَا تَأْتِي بَرْقٌ وَتَدْفُقُ وَدُقٌّ وَمَا سَبَّحَ

اوترخو پورے چه خلیری برینسا او زریری باران اوترخو پورے چه تسبیح وائی

رَعْدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رعد. اے اللہ رحمت او لیومے پہ سردار زمونیر محمد باندمے

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنْ السَّمٰوٰتِ

او په آل د سردار زمونیر محمد باندمے په کوالی د آسمانونو

وَالْاَرْضِ وَمِنْ مَّابَيْنَهُمَا وَمِنْ مَّا شِئْتَ

او دزمکے او په کوالی د مابین ددوئی او په کوالی دهغه خه چه

مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ۝ اَللّٰهُمَّ كَمَا قَامَ

ته نئے غوارے ددے نه پس. اے اللہ چه خنکه هغه ولاړوو

بِاَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ وَاسْتَنْقَذَ الْخَلْقَ مِنْ

درسالت بار رسولوته او وے ویستل خلق د

الْجَهَالَةِ وَجَاهَدَ اَهْلَ الْكُفْرِ وَالضَّلٰلَةِ

جهالت نه او او جنکیدو کافرانو سره او گمراهانو سره

وَدَعَا اِلٰى تَوْحِيدِكَ وَقَاسَ الشَّدَّ اَيْدِيَّ

او بلنه نئے او کره ستا توحید طرفته او برداشت نئے کره سختیانے په

اِرْشَادِ عَيْبِكَ فَاَعْطِهِ اللّٰهُمَّ سُوْلَهُ

لارښودنه کنه ستابندگانو نه نو ورکره ورله اے اللہ غوښتنه دهغوی

وَيَلِّغُهُ مَمُوْلَهُ وَاِيَةَ الْوَسِيْلَةِ وَالْفَضِيْلَةَ

او وے رسوے مقصود خپل ته او ورکره ورله وسیله او فضیلت

وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَاَبْعَثْهُ الْمَقَامَ

او درجه او چته او پاسوے هغه مقام

المحمود الذي وعدته انك لا تخلف

محمود ته چه وعده دکرے ده ورسره بیشکه ته خلاف نه کوم

الوبعاد اللهم واجعلنا من

ذو عده. اے الله او او گرخوم مونیره د پیروی کونکو نه

المتبعين لشريعته المتصفين بحبته

د شریعت دهغوی متصف کیدونکی د محبت د هغوی هدایت

المهتدين بهديته وسيرته وتوفنا

مونلونکی هدایت دهغوی حاصلونکی دسیرت دهغوی اووفات راکرے راته

على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته

په طریقے دهغوی او مونیره محروم نه کرم دفضیلت دشفاعت دهغوی نه

واحشرنا في اتباع الغر المحجلين

اوز مونیره حشر اکرے دهغوی پیروی کونکو کسره چاتندی اولاس خپه به چه خلیبری

واشياعه السابقين واصحاب اليمين

اوپه ډله دهغوی کسره چه تړلونه بهمخکسره وی اوچه عملنامه بهوررکړه کیبری په بنی لاس کسره

يا ارحم الراحمين اللهم صل

اے دهرچا نه زیات رحم کونکیه. اے الله رحمت او لبرے

على ملائكتك والمقربين وعلى

په خپلو ملائکو باندمے او په مقربوباندمے او په

انبيائك والمرسلين وعلى اهل

نبیانو خپلو او په رسولانو او په طاعت

طاعتك اجمعين واجعلنا بالصلاة

کونکو خپلو تړلو باندمے او مونیره او گرخوم په درود لیکلوباندمے

عليهم من المرحومين اللهم

په هغوی باندمے درحم کرم شوونه. اے الله

صل على سيدنا محمد المبعوث

رحمت اولبرے په سردار زمونیر محمد باندمے شوک چه لیکلے شوم دے

من تهامة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر

دمکے نه او حکم کونکے دے دنیکو کارونو او داستقامت په دین باندمے

وَالشَّفِيعِ لِأَهْلِ الدُّنُوبِ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ

او شفاعت کونکے گنہگارو دپارہ د قیامت پہ میدان کنے

اللَّهُمَّ أبلغ عَنَّا نَبِيَّنَا وَشَفِيعَنَا وَ

اے اللہ او رسوے زمونیر دطرفہ زمونیر نبی تہ او زمونیر شفیع تہ او

حَبِيبَنَا أَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ

زمونیر محبوب تہ غورہ درود او سلام

وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الْكَرِيمِ

او پورتنے کرے بہ مقام محمود کنے چہ دیر اعلیٰ دے

وَأَيُّهُ الْفَضِيلَةَ وَالْوَسِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ

او ورکرے ورتہ فضیلت او وسیلہ او درجہ

الرَّفِيعَةَ الَّتِي وَعَدْتَهُ فِي الْمَوْعِدِ

اوجتہ دکومے چہ دور سرہ وعدہ کرے دہ پہ مینخ دخانے

الْعَظِيمِ ۝ وَصَلِّ لِلَّهِمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً

اوجت کنے اور رحمت اولیرے اے اللہ پہ ہغوی باندے داسے رحمت

دَائِمَةً مُتَّصِلَةً تَتَوَالَى وَتَدُومُ ۝

چہ ہمیشہ وی پیوست وی بلہ ہسے او ہمیشہ وی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ مَا لَاحَ

اے اللہ رحمت اولیرے پہ ہغوی باندے او بہ آل دہغوی تر خوہورے

بَارِقٌ وَذَرَّ شَارِقٌ وَوَقَبَ غَاسِقٌ وَ

چہ خلیبری بجلی او راؤخی نمر او تیارہ کیری شہ او

انْهَمَ وَادِقٌ ۝ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ

وربیری وریخہ او رحمت اولیرے پہ ہغوی باندے او بہ

إِلَيْهِ مِنْ اللُّوْحِ وَالْفَضَاءِ وَمِثْلِ نُجُومِ

آل دہغوی بہ دکوالی دلوح اودفر احوالی دزمکے او بہ مثل دستورو

السَّمَاءِ وَعَدَدِ الْقَطْرِ وَالْحَصَىٰ وَصَلِّ عَلَيْهِ

دآسمان او بہ شمار دشاغکو اودکوت کاترو او رحمت ہرے اولیرے

وَعَلَىٰ آلِهِ صَلَاةً لَا تَعُدُّ وَلَا تُحْصَىٰ ۝

او بہ آل دہغوی داسے رحمت چہ نہ نئے شمار وی او نہ پورہ والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ زينة عرشك ومبلغ

ای اللہ رحمت اولییرے پہ ہغوی باندے پہ برابری دوزن دعرش خیل او

رضاک ووداد کلماتک ومنتھ رحمتک

پہ انلازے درضاستاویہ برابر والی دسیاہی دکلماتوستاویہ انتھی درحمت ستا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ

ای اللہ رحمت اولییرے پہ ہغوی باندے اوپہ آل دھغوی اوپہ بییانو

وذریتہ وبارکک علیہ وَعَلَىٰ آلِهِ وَ

دھغوی اوپہ اولاد دھغوی اوبرکت اولییرے پہ ہغوی باندے اوپہ آل دھغوی

أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ

اوپہ بییانو دھغوی اوپہ اولاد دھغوی خنکہ چہ درحمت لیگلے دے اوبرکت

عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

دلیرے دے پہ سردار زمونیر ابراہیم باندے اوپہ آل د سردار زمونیر

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَجَارِهِ

ابراہیم باندے بیشکہ تہ دیرستایلی شومے دبزرگی والائے او جزا ور کرے ور تہ

عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَن أُمَّتِهِ

زمونیر دطرفنہ ہغہ بہترہ جزا چہ تاور کرے دہ یونی تہ دخیل امت د طرفہ

وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ بِمِنْهَا جِ

او مونیرہ او کرخومے پہ ہدایت موندونکو کنیے پہ لارہ

شَرِيْعَتِهِ وَاهْدِنَا بِهَدْيِهِ وَتَوْفَاتِنَا عَلَىٰ

دشریعت دھغوی او مونیرہ او چلومے پہ سیرت دھغوی او وفات رالہ راکرے

مِلَّتِهِ وَاحْشُرْنَا يَوْمَ الْقَزَعِ الْأَكْبَرِ

پہ ملت دھغوی او مونیرہ را پاسومے پہ ورخ دھغہ لونے یرے

مِنَ الْأَمِينِينَ فِي زُمْرَتِهِ وَأَمْتِنَا عَلَىٰ

دامن والاونہ پہ دلہ دھغوی کنیے او مرک رالہ راکرے پہ

حُبِّهِ وَحُبِّ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّتِهِ

محبت دھغوی اوپہ محبت دھغوی او داصحابو دھغوی او دا اولاد دھغوی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ

ای اللہ رحمت اولییرے پہ سردار زمونیر محمد باندے شوک چہ غورہ دے

أَنْبِيَاكَ وَ أَكْرَمَ أَصْفِيَاكَ وَ إِمَامَ

بہ بنیانوستا کنئے او دیر غورہ دے بہ غورہ کہے شووستا کنئے او امام دے

أَوْلِيَاكَ وَ خَاتَمَ أَنْبِيَاكَ وَ حَبِيبِ

د دوستانو ستا او ختمونکے دے د پیغمبرانو ستا او محبوب

رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ شَهِيدِ الْمُرْسَلِينَ وَ شَفِيعِ

د رب العالمین دے او گواہ درسلوانو دے او شفاعت کونکے

الْمُذْنِبِينَ وَ سَيِّدِ وُلْدِ أَدَمَ أَجْمَعِينَ

د گنہگارو دے او سردار دے د آدم دتول اولاد

الْمَرْفُوعِ الذِّكْرِ فِي الْمَلِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

جہ او چت کہے شوے دے ذکر دھغویٰ بہ ملائکو مقربو کنئے

الْبَشِيرِ النَّذِيرِ السَّرَاحِ الْمُنِيرِ الصَّادِقِ

جہ زیرے ور کونکے دے 'برونکے دے دیوہ دہ رویشانہ ریشتنے دے

الْأَمِينِ الْحَقِّ الْمُبِينِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

امانت دار دے حق ظاہرونکے دے دیر مہربان دیر رحم کونکے دے

الْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي

لا رہ بنودونکے دے طرف دنیغے لارے. ہفہ ہستی جہ

أَنْبِيَتَهُ سَبْعًا مِنْ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ

تاورلہ ورکری دی اوہ آیتونہ د سورت فاتح او قرآن عظیم

نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ هَادِي الْأُمَّةِ أَوَّلِ مَنْ

نبی درحمت دے او رھما د اُمت دے اول ہفہ کس دے

تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ

جہ راؤ زیہ دقبرنہ او دا خلیوی بہ جنت تہ

وَالْمُؤَيَّدِ بِسَيِّدِنَا جِبْرِيلَ وَ سَيِّدِنَا

اوملدکے شوے دے زمونیر بہ سردار جبریل سرہ اوزمونیر بہ سردار

مِيكَائِيلَ الْمُبَشِّرِ بِهِ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

میکائیل سرہ زیرے نے ورکے شوے دے بہ تورات او بہ انجیل کنئے

الْمُصْطَفَى الْمُجْتَبَى الْمُنتَخَبِ أَبِي

غورہ کہے شوے غورہ کہے شوے 'منتخب کہے شوے ابو

الْقَاسِمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

القاسم سردار زموئیر محمد خونے د عبد اللہ خونے

بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ ۝ اللَّهُمَّ

د عبد المطلب خونے د ہاشم اے اللہ

صَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ وَالْمُقَرَّبِينَ الَّذِينَ

رحمت او لیبے پہ خپلو ملائکو او مقربینو ہفہ خوگ

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ وَ

چہ تسیح واتی شہہ او ورخ سستیانہ کوی او داللہ نافرمانی

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ

نہ کوی پہ ہفہ حکم کنیے چہ ور تہ نے کہے وی او کوی ہفہ کار

مَا يُؤْمَرُونَ ۝ اللَّهُمَّ وَكَمَا اصْطَفَيْتَهُمْ

چہ دکوم ور تہ حکم شوے وی اے اللہ او خنکہ چہ دھوئی منتخب کری

سَفَرَاءَ إِلَى رُسُلِكَ وَأَمْنَاءَ عَلَى وَحْيِكَ

دی پیغام رسونکی خپلو رسولا نو طرفتہ او امانتدار پہ وحی خپلے

وَشَهِدَاءَ عَلَى خَلْقِكَ وَخَرَقْتَ لَهُمْ

او گواہان پہ مخلوق خپل او خیرے کہے ددی ہوئی دپارہ

كُنْفَ مَجِيئِكَ وَأَطَّلَعْتَهُمْ عَلَى مَكْنُونِ

کنارے دپہر دو خپلو او خیر کہے ددی پہ پت

غَيْبِكَ وَاخْتَرْتَ مِنْهُمْ خَزَنَةَ لِحْنَتِكَ

غیب خپل او اختیار کری ددی پہ ہوئی کنیے خیال ساتونکی دجنت خپل

وَحَمَلَةَ لِعَرْشِكَ وَجَعَلْتَهُمْ مِنْ

او او چترنکی دعرش خپل او گرخولی ددی د

أَكْثَرِ جُنُودِكَ وَقَضَيْتَهُمْ عَلَى الْوَرَى

اکثر ولینکرو خپلوانہ او فضیلت دورلہ ور کہے دے پہ مخلوق باندے

وَأَسَكَنْتَهُمُ السَّمَوَاتِ الْعُلَى وَنَزَّهْتَهُمْ

او استوگنہ دور کہے دہ پہ او چتو اسامانونو کنیے او پاک کری ددی

عَنِ الْمَعَاصِي وَالذَّنَائِبِ وَقَدَّسْتَهُمْ

دگناہونونہ او د بدوعا دتونونہ او پاک کری ددی

عَنِ التَّقَائِصِ وَالْأَقَاتِ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ

دنقانصونه او دآفتونونه. پس درود اوليرے په هغوی باندے

صَلَاةً دَائِمَةً تَزِيدُهُمْ بِهَا فَضْلًا

داسے درودچه همیشه وي چه زیات کرے په هغه سره بزركي دهغوی

وَتَجْعَلْنَا لِاسْتِغْفَارِهِمْ بِهَا أَهْلًا

او اوگړخوے مونږ دهغوی استغفار کولو د پاره په هغه سره اهل

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ وَ

اے الله او درود او ليرے په ټولو انبياو څپلو او څپلو هغه رسولانو

رُسُلِكَ الَّذِينَ شَرَحَتْ صُدُورَهُمْ

باندے چه پرانستے دي تا سينے دهغوی او ورسره داينے دے حکمت

وَأودَعَتْهُمْ حِكْمَتَكَ وَطَوَّقَتْهُمْ نُبُوتَكَ

څپل او په غاړه كښے دے ورته اچولے دے نبوت څپل او نازل كړي

وَأَنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ كُتُبَكَ وَهَدَيْتَهُمْ

ددې په هغوی باندے كتابونه څپل او هدايت دكړے دے دهغوی په ذريعه

خَلَقَكَ وَدَعَا إِلَى تَوْحِيدِكَ وَشَقُّوْا

مخلوق څپل ته او هغوی رابدل كړي دي ستاتو حيد طرفته او شوق نړے

إِلَى وَعْدِكَ وَخَوْفُوا مِنْ وَعِيدِكَ وَ

ور كړے دے ستا وعده ته او برؤل نړے كړي دي ستا د عذاب نه او

أرْشَدُوا إِلَى سَبِيلِكَ وَقَامُوا بِحُجَّتِكَ

رهنمائي نړے كړے ده ستا لارے طرفته او او دريدلي دي ستا په حجت سره

وَدَلَّيْلِكَ وَسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تَسْلِيمًا

اوستا په دليل سره او سلام او ليرے اے الله په هغوی باندے ډير سلام

وَهَبْ لَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

اورا كړے مونږ ته په درود ونيلو سره هغوی باندے لورے اجر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے الله رحمت او ليرے زمونږ په سردار محمد باندے او په

أل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً

آل د سردار زمونږ محمد باندے داسے رحمت چه همیشه وي

مقبولة تؤدني بهاعتنا حقه العظيم

او مقبول وي چه اداشي به هغه سره زمونږ نه لونه حق دهغوي

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب

امه الله رحمت اوليې به سردار زمونږ محمد باندې چه صاف ده

الحسن والجمال والبهجة والكمال

دحسن او جمال او دخو شخالو او دکمال

والبهاء والنور والودان والخورو

او د رنرا او دنور او د غلمانو او دخورو او

الغرف والقصور واللسان الشكور

د بالاخانو او دمحلونو او د ژبې شکر کندانې

والقلب المشكور والعلم المشهور

او د زړه شکر کونکي او د علم مشهور

والجيش المنصور والبنين والبنات

او دلښکر فتحمنداو صاحب دخامنو او دلونږو

والازواج الطاهرات والعلو على الراجا

اودببسانو پاکيزه و او صاحب داوجوالي به درجو باندې

والزمنم والمقام والمشعر الحرام

او صاحب د زمزم او دمقام محمود او دمشعره حرام

واجتناب الاثم وتزبيبة الايتام والحج

اودپرهيز کونکي دگناهونونه اوتربيت کونکې ديتيمانو او صاحب د حج

وتلاوة القران وتسييح الرحمن وصيام

او د تلاوت قرآن او د تسيح د رحمن او دروزو

رمضان واللواء المعقود والكرم

د رمضان او د جهنمې غوټه لرونکې او دکرم

والجود والوفاء بالعهد وصاحب الرعية

او د سخا او د وفا په لوظونو باندې صاحب د رغبت

والترغيب البغلة والنجيب والحوض

اودترغيب او صاحب د بغلې (قجرې) او شريف او صاحب د حوض

وَالْقَضِيْبُ لِلنَّبِيِّ الْاَوْابِ لِلنَّاطِقِ بِالتَّوَابِ

او ذنورے اللہ تہ رجوع کونکے نبی و یونکے سرہ دحق و بنا

الْمَنْعُوتِ فِي لِكْتَابِ لِلنَّبِيِّ عَبْدِ اللّٰهِ النَّبِيِّ

تعریف کرے شوے پہ کتاب کئے نبی د اللہ بندہ نبی

كَتْرِ اللّٰهِ النَّبِيِّ حُجَّةِ اللّٰهِ النَّبِيِّ مَنْ

د اللہ خزانہ نبی د اللہ حجت دا سے نبی چہ خوگ نے اطاعت

اَطَاعَهُ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَاهُ

او کرے نوبقینا هغه د اللہ اطاعت او کر و او چاچہ دهغه نافرمانی او کره

فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ الْعَرَبِيُّ الْقُرَشِيُّ

نوبقینا هغه دا اللہ نافرمانی او کره نبی عربی دے قریشی دے

الرَّمْزِيُّ الْمَكِّيُّ التَّهَامِيُّ صَاحِبِ

زمزمی دے مکی دے تهامی دے خاوند

الْوَجْهِ الْجَوْبِيِّ وَالطَّرْفِ الْكَجْبِيلِ

د حائستہ مخ دے او صاحب ذ رانجو دارو سترگو دے

وَالْحَدِّ الْاَسِيلِ وَالْكُوْتْرِ وَالسَّلْسِيلِ

او داننگی هوار او د کوثر او د سلسیل دے

قَاهِرِ الْمُضَادِّينَ مُبِيدِ الْكُفْرِيِّنَ وَ

غالب پہ مخالفینو هلاکونکے دکافرانو او

قَاتِلِ الْمُشْرِكِيْنَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ

قاتل د مشرکانو قائد د خلیدونکو لاسونو خجو

اِلَى جَنّٰتِ النَّعِيْمِ وَجَوَارِ الْكَرِيْمِ

د جنت نعمتونو طرفتہ او پناہ د کریم

صَاحِبِ سَيِّدِ نَاجِرِ بَيْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

دوست د سردار زمونیر جبرئیل علیہ السلام

وَرَسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَشَفِيْعِ الْمَذْنُبِيْنَ

او رسول د رب العالمین او شفاعت کونکے د گنہگارانو

وَعَايَةِ الْغَمَامِ ۝ وَوَصْبَاحِ الظَّلَامِ

او غایت د رحمت دوریخو او دیوه ده ذتیارو

وَقَمَرِ التَّمَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ

اوسپوری ذہ خوار لسمے شے رحمت دالہ دوی یہ ہغوی بانہے او بہ آل دھغوی

المُصْطَفِينَ مِنْ أَطْهَرِ جِبَلَةٍ صَلَوَةٌ

شوگ چہ غورہ کرے شوی دی بہ پاک ترینہ دلہ کنہے داسے رحمت چہ

دَائِمَةً عَلَى الْأَبَدِ غَيْرِ مُضْمَلَةٍ صَلَّى

ہمیشہ وی بہ ہمیشہ والی بانہے نہ وی قطع کیلونکے رحمت دالہ دوی بہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ صَلَوَةٌ يَتَجَدَّدُ

ہغوی بانہے او بہ آل دھغوی داسے رحمت چہ تازہ کیبری بہ ہغے سرہ خوشالی

بِهَا حُبُّهُ وَيُشْرَفُ بِهَا فِي الْمَبْعَادِ

دھغوی او اوچت کرے شی بہ ہغے سرہ بہ قیامت کنہے راتل دھغوی او تشریف

بِعَثْتِهِ وَنُشُورُهُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ

راؤزل دھغوی بہ حشر کنہے بس رحمت دالہ دوی بہ ہغوی بانہے او بہ آل دھغوی

آلِهِ الْأَجْمَعِ الطَّوَالِحِ صَلَوَةٌ تَجُودُ عَلَيْهِمْ

شوگ چہ خلیلونکی سوری دی داسے رحمت چہ او وریری بہ ہغوی بانہے

أَجُودَ الْغِيُوثِ الْهُوَامِعِ أَرْسَلَهُ مِنْ أَرْحِ

بہ ہنہ وریلونکوبار اونو سرہ لیکلے نے دے ہغوی کرہ دافضل ترینو عربونہ بہ

الْعَرَبِ مِيزَانًا وَأَوْصَحَهَا بَيَانًا وَ

میزان کنہے او بہ زیات واضح بیان کونکے کنہے او بہ زیات فصاحت والو کنہے

أَفْصَحَهَا لِسَانًا وَأَشْمَخَهَا إِيْمَانًا وَأَعْلَمَهَا

بہ ژبہ کنہے اوزیات اوچت دھغوی نہ بہ ایمان کنہے او زیات اوچت بہ ہغوی

مَقَامًا وَأَحْلَاهَا كَلَامًا وَأَوْفَاهَا ذِمَامًا

کنہے بہ مقام کنہے اوزیات خوردیہ ہغوی کنہے بہ کلام کنہے اوزیات کامل بہ

وَأَصْفَهَا رَغَامًا ۞ فَأَوْصَحَ الطَّرِيقَةَ

ہغوی کنہے بہ بزرگی کنہے او زیات خالص بہ ہغوی کنہے بہ نسب

وَنَصَحَ الْخَلِيقَةَ وَشَهَّرَ الْإِسْلَامَ وَكَسَّرَ

کنہے ہس واضح نے کرلہ لارہ اونصیحت نے او کر و خلقوتہ او مشہور نے

الْأَصْنَامَ وَأَظْهَرَ الْحُكْمَ وَحَظَرَ الْحَرَامَ

کر و اسلام اومات کرل بتان او ظاہر نے کرل احکام او بندلوا نے او کر و دحر امو نہ

وَعَمْرٍ بِالْإِنْعَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى

او عام شولوپه نعمتونوسره. رحمت دالله دوي په هغوی باندے او په

إِلَيْهِ فِي كُلِّ مَحْفَلٍ وَمَقَامٍ أَفْضَلُ

آل دهغوی په هر محفل کنے او مقام کنے غوره

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى

درود او سلام. رحمت دالله دوي په هغوی باندے او په آل دهغوی

إِلَيْهِ عَوْدًا أَوْ بَدَأً ○ صَلَاةً تَكُونُ

په دے حال کنے چه بیایانے مگر چی اونومے کبیري. داسے رحمت چه شی

ذَخِيرَةً وَوَرْدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى

ذخیره او ورد. رحمت دالله دوي په هغوی باندے او په

إِلَيْهِ صَلَاةٌ تَأْتِي زَاكِيَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

آل دهغوی داسے رحمت چه پوره پاک وي اورحمت دالله دوي په هغوی

وَعَلَى إِلَيْهِ صَلَاةٌ يَتَّبِعُهَا رُوحٌ وَرِيحَانٌ

باندے او په آل دهغوی داسے رحمت چه ورپسے وي روح او ريحان

وَبَعْقِبِهَا مَغْفِرَةٌ وَرِضْوَانٌ ○ وَصَلَّى اللَّهُ

او ورپسے وي مغفرت او رضوان. او رحمت دالله دوي

عَلَى أَفْضَلِ مَنْ طَابَ مِنْهُ التَّجَارُؤُ

په هغوی غوره هستی چه پاک شوورسره نسب او

سَمَائِهِ الْفَخَارُ وَاسْتَنَارَتْ بِنُورِ جَبِينِهِ

اوچت شوورسره غوره خویونه او اوخلیدے په نور دتندی دهغوی سره

الْأَقْمَارُ ○ وَتَضَاءَتْ لَكَ عِنْدَ جُودِ عَيْبِهِ

سپهرمی. او کم حیثیته شومے دهغوی دنی لاس دسختا په وړاندے

الْغَمَائِمُ وَالْبِحَارُ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

ورینخے او دریا بونہ. سردار زمونږ او نبی زمونږ

مُحَمَّدٍ الَّذِي بَاهَرِ آيَاتِهِ أَضَاءَتْ

محمد باندے دچابه غالبو آیتونو سره چه روښانه شولے

الْأَنْجَادُ وَالْأَغْوَارُ وَيُعْجِزَاتِ آيَاتِهِ

او چتے زمکے او کنڈے او دهغوی دآیتونو معجز و سره

نَطَقَ الْكِتَابُ وَتَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ

کویانہ شولو کتاب او پرلہ ہسے راغلل خبرونہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

رحمت دالله دوی پہ ہغوی بانلہ او پہ آل دہغوی او پہ اصحابو دہغوی

الَّذِينَ هَاجَرُوا لِلنُّصْرَةِ وَنَصَرُوهُ

چاچہ ہجرت کرے دے دہغوی مرستے د پارہ او ملکر تیانے او کرہ

فِي هَجْرَتِهِ فَنِعْمَ الْمُهَاجِرُونَ وَنِعْمَ

پہ ہجرت دہغوی کنسے نو ڈیر بنہ مہاجرین وو او ڈیر بنہ

الْأَنْصَارُ صَلَاةٌ تَامِيَةٌ دَائِمَةٌ مَا

انصاروو داسے رحمت چہ زیاتیلونکے وی ہمیشہ وی ترخو پورے چہ

سَجَعَتْ فِي أَيِّهَا الْأَطْيَارُ وَهَمَّعَتْ

چغفار کوی پہ خانکو کنسے مارغان او ترخو پورے چہ وریکی

يُوبِلُهَا الدِّيْمَةُ الْمِدْرَارُضَاعُفَ اللَّهُ

پہ خپل زور سرہ باران ڈیر وریدونکے دو چند دکری الله

عَلَيْهِ دَائِمَ صَلَوَاتِهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

پہ ہغوی بانلہ ہمیشہ رحمت خپل اے الله رحمت اولیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

زمونیر پہ سردار محمد بانلہ او دہغوی پہ آل بانلہ چہ پاک دی

الْكَرَامِ صَلَاةٌ مَوْصُولَةٌ دَائِمَةٌ

او عزتمند دی داسے رحمت چہ پیوست وی ہمیشہ

الَّتِي تَصَالِي يَدَ وَامْرِئِي جَلَالِ الْكَرَامِ

او خانے شوم وی پہ ہمیشہ والی د خاوند د جلال او داکرام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے الله رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمد بانلہ خوک چہ

هُوَ قُطْبُ الْجَلَالَةِ وَشَمْسُ لُبُّوَّةِ

مدار د بزرگی دے او نمر د نبوت

وَالرِّسَالَةِ وَالْهَادِي مِنَ الصَّلَاةِ

او درسالت دے اولارہ بنو دونکے دے دکمراہی نہ

وَالْمُنْقِذُ مِنَ الْجَهَالَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

او خلاصونکے دے د جہالت نہ، رحمت داللہ دوی پہ ہغوی باندے

وَسَلَّمَ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ لِإِتِّصَانِ التَّوَالِي

او سلام. داسے رحمت چہ ہمیشہ پیوست وی او متواتر وی

مُتَعَاقِبَةٍ يَتَعَاقِبُ أَيَّامَ وَاللَّيَالِي ۝

یوبل پسے وی پہ شان د تلوراتلو د ورخو او د شہو

الْحِزْبُ الثَّامِنُ فِي يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ

اتم حزب د پیر د ورخے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

اے اللہ رحمت او لیجے زمونیر پہ سردار محمد باندے چہ نبی دے

الزَّاهِدِ رَسُولِ لِمَلِكِ الصَّمَدِ الْوَاحِدِ

زاهد دے، رسول دے، بادشاہ دے، بے نیازہ دے واحد دے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوَةٌ دَائِمَةٌ

رحمت د اللہ دوی پہ ہغوی باندے داسے رحمت پہ ہمیشہ وی

إِلَى مُنْتَهَى الْأَبَدِ بِلَا انْقِطَاعٍ وَلَا

انتہا زمانے پورے چہ منقطع نہ شی او نہ فناشی داسے

نَفَادٍ صَلَوَةٌ تُنْجِنَانِيَّاهَا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ

رحمت چہ نجات راکیرے مونیر تہ پہ ہغہ سرہ ذکر می ددوزخ نہ

وَيَسِّرُ الْيَهَادُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

او دوزخ دیترہ بدہ تکانہ دہ. اے اللہ رحمت او لیجے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى  
سردار زمونیر محمد بانڈے چہ نبی دے امی دے او بہ  
إِلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ لَا يُحْصَى لَهَا عَدَدٌ  
آل دھغوی اوسلام ہم داسے درود چہ نہ نے احاطہ او کرے شی یو عدد  
وَلَا يُعَدُّ لَهَا مَدَدٌ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى  
اونہ نے او شمارے شی شوک مدد. ای اللہ رحمت او لیجے بہ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُكْرَمُ بِهَا مَنَوَاهُ  
سردار زمونیر محمد بانڈے داسے رحمت چہ عزتمندہ کرے بہ ہغے سرہ  
وَتُبَلِّغُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الشَّفَاعَةِ  
آرامگاہ دھغوی او اور سوے بہ ہغے سرہ قیامت بہ ورخ دشفاغت نہ  
رِضَاهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا  
رضا دھغوی. ای اللہ رحمت او لیجے بہ سردار زمونیر  
مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَصِيلِ السَّيِّدِ  
محمد بانڈے چہ نبی دے اصیل دے سردار دے

النَّبِيِّ الَّذِي جَاءَ بِالْوَحْيِ وَالنَّزِيلِ  
بزرگ دے ہغے ذات چہ راغلے دے بہ وحی او قرآن سرہ  
وَأَوْضَحَ بَيَانَ التَّأْوِيلِ جَاءَهُ الْأَمِينُ  
او واضحہ نے بیان کرو تفسیر دھغے او راغلے دے ورلہ امانتدار  
سَيِّدِنَا جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْكَرَامَةِ  
سردار زمونیر جبریل علیہ السلام بہ عزتمندی سرہ  
وَالْتَفْضِيلِ وَأَسْرَى بِهِ الْمَلِكُ الْجَلِيلُ  
او بہ فضیلت سرہ او سیل وربانڈے او کرو بادشاہ او چت  
فِي اللَّيْلِ لِيَهَيِّمَ الطَّوِيلُ فَكَشَفَ لَهُ  
بہ تورے شیے او گندے کنے پس کولاز نے کرے ہغوی دہارہ  
عَنْ أَعْلَى الْمَلَكَوْتِ وَأَسْرَاهُ سَنَاءً  
پردے د عالم غیب نہ او وے بنوولہ ورتہ بلندی  
الْجَبْرُوتِ وَنَظَرَ إِلَى قَدْرَةِ الْحَيِّ الدَّائِمِ  
دجبروت او نظر نے او کرو قدرت دھمیشہ ژوندی دائمی خدانے تہ



الْبَاقِي الَّذِي لَا يَمُوتُ ○ صَلَّى اللهُ

چه باقی دمی او نه مری. رحمت دالله دوی

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ مَّقْرُونَةٌ بِالْجَمَالِ

په هغوی باندی او سلام هم داسی رحمت چه پیوست وی په جمال سره

وَالْحُسْنِ وَالْكَمَالِ الْخَيْرِ وَالْإِفْضَالِ

او خسن سره او کمال سره او خیر او بزرگی سره

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ای الله رحمت او لیجی په سردار زمونیر محمد باندی او په آل

أَبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَقْطَارِ ○

د سردار زمونیر محمد باندی په شمار دشاخکو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَيِّدِنَا

او رحمت او لیجی په سردار زمونیر او په آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ ○ وَصَلِّ

محمد باندی په شمار دپانرو د اونو او رحمت او لیجی

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

په سردار زمونیر محمد باندی او په آل د سردار زمونیر.

مُحَمَّدٍ عَدَدَ زَبَدِ الْبِحَارِ ○ وَصَلِّ عَلَى

محمد باندی په شمار د خک د دریابونو او رحمت او لیجی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

په سردار زمونیر محمد باندی او په آل د سردار زمونیر محمد باندی

عَدَدَ الْأَنْهَارِ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

په شمار د نهرونو او رحمت او لیجی په سردار زمونیر محمد باندی

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ رَمْلِ

او په آل د سردار زمونیر محمد باندی په شمار د شکو

الصَّحَارَى وَالْقِفَارِ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

د صحراگانو او میدانونو او رحمت او لیجی په سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

محمد باندی او په آل د سردار زمونیر محمد باندی په شمار

ثَقِيلٌ يُجْبَالُ وَالْأَحْجَارِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ذروند والی د غرونو او کانو. او رحمت او لیرے په سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

محمد باندے او په آل د سردار زمونیر محمد باندے په شمار

أَهْلِ لُجَنْةٍ وَأَهْلِ النَّارِ وَصَلِّ عَلَى

د جنتیانو او دوزخیانو. او رحمت او لیرے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

په سردار زمونیر محمد باندے او په آل د سردار زمونیر محمد باندے په شمار

الْأَبْرَارِ وَالْفَجَّارِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

د نیکانو او بدانو 'او رحمت او لیرے په سردار زمونیر محمد باندے او په آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ الْبَيْلُ

د سردار زمونیر محمد باندے په شمار دهغه چه مختلف شویدی په هغه سره

وَالنَّهَارِ وَاجْعَلْ لِلَّهِمَّ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ

شپه او ورځے 'او او مگر خوے اے الله درود زمونیره په هغوی باندے

حِجَابًا مِّنْ عَذَابِ النَّارِ سَبَبًا لِإِبَاحَةِ

حجاب داور د عذاب نه او سبب د مباح والی

دَارِ الْقَرَارِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

د جنت بیشکه ته په هر جا غالب او ډیر بخښونکے نے.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

او رحمت د الله ډوی زمونیر په سردار محمد باندے او په

آلِ الطَّيِّبِينَ وَذُرِّيَّتِهِ الْمُبَارَكِينَ

آل د هغوی چه پاکان دي او په اولاد دهغوی چه برکتیان دي

وَصَحَابَتِهِ الْكُرَمِيِّينَ وَأَزْوَاجَهُ أَهْمًا


او په اصحابو دهغوی چه عزتمند دي او په بییانو دهغوی چه میندے

الْمُؤْمِنِينَ صَلَاةً مَّوْصُولَةً تَتَرَدَّدُ

د مومنانو دي 'داسه رحمت چه یوځانے شوے او پرله پسے وي

إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

د قیامت ترورځ پورے 'اے الله رحمت او لیرے په



سَيِّدِ الْأَبْرَارِ وَزَيْنِ الْمُرْسَلِينَ الْأَخْيَارِ

سردار ذنیکانو او په زینت ذ مرسلانو غوره کرے شو

وَ أَكْرَمَ مَنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ الْبَيْلُ وَأَشْرَقَ

اوزیات عزتمنددھغه چانه چه تبارہ کرے وی ورباندے شے او خلیدلے

عَلَيْهِ النَّهَارُ ۞ ثَلَاثًا ۞ أَللَّهُمَّ يَا ذَا

وی ورباندے ورخے (درے خل داوانی) اے اللہ اے خاوندہ

الْمَنْ الَّذِي لَا يُكَافَى امْتِنَانَهُ وَالطَّوِيلِ

داحسان هغه ذاته چه بدله نشی کیلے داحسان ستاوداسے ورکھے والا

الَّذِي لَا يُجَازَى اِنْعَامَهُ وَاحْسَانَهُ سَأَلْتُكَ

چه عوض نشی کیلے د انعام ستا او داحسان ستا' مونیر سوال کوز

بِكَ وَلَا سَأَلْتُكَ بِأَحَدٍ غَيْرِكَ أَنْ تُطْفِقَ

تانه او سوال نه کوؤ دھجانه تانه سوا چه گویانه کرے

الْأَسْنَتَ عِنْدَ السُّؤَالِ وَتَوْفِقْنَا لِصَالِحِ

ڑبے زمونیرہ په وخت د سوال دمنکر نکیر' او توفیق رالہ را کرے دنیکو

الْأَعْمَالِ وَتَجَعَلْنَا مِنَ الْأَمِينِ يَوْمَ

عملونو او او کرخوے مونیرہ دامن والاونه په ورخ

الرَّجْفِ وَالزَّلْزَلِ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ

دزمکے لرزیدلو او ذ زلزلو' اے د عزت او لویں خاوندہ

أَسْأَلُكَ يَا نُورَ التَّوْقِيلِ لَا زَمَانَ وَاللَّهُوِيَّ

زه سوال کوم لتانه اے نورہ دنورونو مخکنے دزمانو او مودو'

أَنْتَ الْبَاقِي بِلَا زَوَالٍ اِلْغَيْبِ بِلَا مِثَالِ

ته باقی نے بغیر زواله عینی نے بے مشالہ

الْقُدُّوسِ الطَّاهِرِ الْعَلِيِّ الْقَاهِرِ الَّذِي

دیر پاک' طاهر نے' او جت نے داسے غالب نے

لَا يُحِيطُ بِهِ مَكَانٌ وَلَا يَسْتَقِيلُ عَلَيْهِ زَمَانٌ

چه احاطه پرے نشی کولے ہیخ مکان او نه شاملیری ورباندے زمانہ

أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُنْهَا وَبِأَعْظَمِ

زه سوال کوم لتانه په وسیلے دتولو بنکلونو مونو ستا او په او چتو

أَسْمَائِكَ إِلَيْكَ وَأَشْرَفَهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةً

نومونوستا، ستا طرفتہ، او زیات شرافت والا ستا بہ نزد بہ مرتبہ کنیے

وَأَجْزَلَهَا عِنْدَكَ تَوَابًا وَأَسْرَعَهَا مِنْكَ

او زیات او جت ستا بہ نزد بہ ثواب کنیے او زیات تیز ستا د طرفہ

إِجَابَةً وَبِاسْمِكَ الْمَخْزُونِ الْمَكْنُونِ

بہ قبولوالی کنیے، او بہ وسیلہ دنوم ستا چہ خزانہ شومے او پتہ دے

الْجَلِيلِ الرَّجُلِ الْكَبِيرِ الْكَبِيرِ الْعَظِيمِ

جلیل القدر او دتولونہ او جت دے ذلویونہ لونی دے عظیم

الْأَعْظَمِ الَّذِي تُجِبُّهُ وَتَرْضَى عَنْ مَنْ

او اعظم دے کوم چہ ستا خوبش دے او راضی کیے دھغہ چانہ چہ تا

دَعَاكَ بِهِ وَتَسْتَجِيبُ لَهُ دُعَاءَهُ

راہلی پہ دے سرہ او قبولے تہ ہغہ دبارہ دعا دھغہ زہ سوال کوم تانہ

أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِلا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْحَنَّانُ

اے اللہ پہ دے سرہ چہ نیشتہ خوگ معبود تانہ سوا، تہ دیر مہربان نے

الْمَتَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ

دیر احسان کونکر نے تومے پیدا کونکر داسمانو نو او زمکر نے خاوند جلال

وَالْإِكْرَامِ عَلِيمُ الْغَيْبِ الشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ

او دعزت نے، خبردار نے بہ عیبو او بنکارہ باندرے لونی

الْمُتَعَالِ ○ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ

او او جت نے، او سوال کوم تانہ بہ وسیلہ د نوم ستا سرہ چہ عظیم

الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ

او اعظم دے ہغہ نوم چہ تہ راوبللے شے بہ ہغے سرہ نو قبول کومے

وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَأَسْأَلُكَ

او کلہ چہ سوال او کرے شی تانہ بہ ہغے سرہ نوور کرہ کومے، او سوال

بِاسْمِكَ الَّذِي يَذُلُّ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَاءَ

کوم تانہ ستا بہ ہغہ نوم سرہ چہ سرتبتیوی بہ ورائدے د عظمت دھغے لونی

وَالْمُلُوكَ وَالسَّبَاءَ وَالْهُوَامَ وَكُلَّ

لونی خلق او بادشاہان او درندگان او دزمکرے کھر خندہ غیزونہ او تبول

شئآ خلقته يَا الله يَا رَبِّ اسْتَجِبْ دَعْوَتِي يَا

مخزونہ چہ تا پید اکرے دی، اے اللہ، اے ربہ قبولہ کرے دعاخما اے

مَنْ لَهٗ الْعِزَّةُ وَالْجَبْرُوتُ يَا ذَا الْمُلْكِ

هغه ذاتہ چہ هغه دہارہ عزت او جبروت دے اے دملک

وَالْمَلَكُوتِ يَا مَنْ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ

او حکومت خاوندہ اے هغه ذاتہ چہ ژوندے دے نہ بہ مری

سُبْحَانَكَ رَبِّ مَا اعْظَمَ شَانُكَ وَاَرْفَعُ

پاک نے تہ اے ربہ غہ لونی دے شان ستا او اوچت دے

مَكَانَكَ اَنْتَ رَبِّي يَا مُتَقَدِّسًا فِي جَبْرُوتِهِ

مکان ستا، تہ خما رب نے، اے پاکہ پہ صفاتو خپلو کنے

إِلَيْكَ أَرْغَبُ وَإِلَيْكَ أَرْهَبُ يَا عَظِيمُ

ستا طرفتہ رغبت کوم او ہم تانہ یرہ کوم اے عظیمہ

يَا كَبِيرُ يَا جَبَّارُ يَا قَادِرُ يَا قَوِيُّ تَبَارَكَتَ

اے لویہ اے زور آورہ او قادرہ اے طاقتورہ، تہ برکت والا نے

يَا عَظِيمُ تَعَالَيْتَ يَا عَلِيمُ سُبْحَانَكَ يَا

اے عظیمہ، تہ لوئے نے، اے دلونی علم خاوندہ، تہ پاک نے، اے

عَظِيمُ سُبْحَانَكَ يَا جَلِيلُ أَسْأَلُكَ

عظمت والا تہ پاک نے، اے لوئے ذاتہ سوال کوم تانہ

بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ التَّامِّ الْكَبِيرِ اِنْ لَّا

ستا پہ عظیم نوم سرہ، کامل او لوئے، ذاتہ، داچہ مہ

تُسَلِّطْ عَلَيْنَا جَبَّارًا عَنِيدًا اَوْ لَا شَيْطَانًا

مسلط کوے پہ مونر بانڈے شوک سرکش جھگرے مار او نہ شیطان

مَرِيْدًا اَوْ لَا اِنْسَانًا حَسُوْدًا اَوْ لَا ضَعِيْفًا

سرکش او نہ انسان بدخواہ او نہ شوک کمزورے

مِّنْ خَلْقِكَ وَلَا شَدِيْدًا اَوْ لَا بَاسًّا اَوْ

دمخلوق خپل نہ او نہ شوک سخت او نہ نیک او

لَا فَاجِرًا اَوْ لَا عَنِيدًا اَوْ لَا عَنِيدًا ٥

نہ فاجر او نہ غلام او نہ عناد کونکے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ

اے اللہ زہ سوال کوم تانہ پس بیشکہ زہ گواہی کوم چہ

أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ

بہ تحقیق سرہ تہ اللہ نے چہ نیستہ دے معبود مکرہم تہ نے خانلہ

الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

یولے بے حاجتہ ہفہ ذات چہ نہ نے شوک زیکولی دی اونہ چانہ زیکیلے دے

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ يَا هُوَ يَا مَنْ لَا

اونہ دہفہ دبارہ شوک سیال شتہ اے ہفہ ذاتہ چہ نیستہ دے شوک بل

هُوَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَا أَرْزَلُ

مکرہم ہفہ دے اے ہفہ ذاتہ چاتانہ سواہی شوک معبود نیستہ اے ازلی

يَا أَبَدِيُّ يَا دَهْرِيُّ يَا دِيمُومِيُّ يَا مَنْ

اے ابدی یا قائمہ اے دائمہ اے ہفہ ذاتہ چہ

هُوَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ يَا إِلَهَنَا وَ

مملدے ژوندے دے مرگ بہ ورلہ نہ راخی اے زمونیر معبودہ او

إِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا وَاحِدًا إِلَّا إِلَهَ

دھرخیز معبودہ یو معبودہ نیستہ بل معبود سوا

إِلَّا أَنْتَ ۝ أَللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ

ذ ستانہ اے اللہ پیدا کونکیہ ذ اسمانونو

وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ

او ذ زمکے پوہیدونکیہ بہ غیبو او بہ بشکارہ و دیر رحم کونکیہ

الرَّحِيمَ الْحَمْدُ الْقَيُّومَ الدِّيانَ الْحَمْدَانَ

دیر مہربانہ اے ژوندیہ قائمہ بدلہ ور کونکیہ دیر مہربان

الْمَنَّانَ الْبَاعِثَ الْوَارِثَ ذَا الْجَلَالِ


دیر احسان کونکے مری ژوندی کونکے وارث دجلال او

وَالْإِكْرَامِ ۝ قُلُوبُ الْخَلَائِقِ بِبَيْدِكَ

دلویسے خاوند زرونہ ذ مخلوقاتو ستا پہ لاس کنے دی

تَوَاصِيهِمْ إِلَيْكَ فَأَنْتَ تَزْرَعُ الْخَيْرَ

تندی نے ستا طرفتہ دی پس تہ کھے نیکی



فِي قُلُوبِهِمْ وَتَمَحُّوا الشَّرَّ إِذَا شِئْتَ

دھغوی پہ زبونو کنہے او لرے کوے بدی کلہ چہ او غوارے

مِنْهُمْ ۝ فَاسْأَلْكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَمَحُّوا

ددوی نہ، نو سوال کوم لسانہ اے اللہ چہ محوہ کرے

مِنْ قَلْبِي كُلِّ شَيْءٍ تَكْرَهُهُ، وَأَنْ تَحْشُو

خما دذره نہ ہر ہغہ خیز چہ تہ نے بد گنہے او داچہ دک کرے

قَلْبِي مِنْ خَشْيَتِكَ وَمَعْرِفَتِكَ وَ

زہ خما دخیلے ویرے نہ او خیل معرفت نہ او

رَهْبَتِكَ وَالرَّغْبَةَ فِيمَا عِنْدَكَ وَالْأَمْنَ

او دخیل خوف نہ، اورغب رانصب کرے دھغہ خیز و نوچہ تاسرہ دی

وَالْعَافِيَةَ وَأَعْطِفْ عَلَيْنَا بِالرَّحْمَةِ

او امن او عافیت ہم او مہربانی او کرے پہ مونیر بانلدے پہ رحمت سرہ

وَالْبَرَكَاتِ مِنْكَ وَالْهِمْنَا الصَّوَابَ

اوپہ برکت سرہ دخیل طرفہ او زہہ کنہے راتہ واجمے صواب

وَالْحِكْمَةَ ۝ فَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ عِلْمَ

او حکمت پس غوارو لسانہ اے اللہ علم

الْحَافِيَيْنِ وَإِنَابَةَ الْمُخْبِتِينَ وَإِخْلَاصَ

ذویریدونکو او متوجہ کیدل دعا جزی کونکو او اخلاص

الْمُوقِنِينَ وَشُكْرَ الصَّابِرِينَ وَتُوبَةَ

دیقین کونکو او شکر د صبر کونکو او توبہ

الصَّادِقِينَ ۝ وَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِنُورِ

دصدیقانو، او سوال کوو لسانہ اے اللہ پہ وسیلے دنور

وَجْهِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ

دذات ستا کوم چہ دکے کرے دی گوشے دعرش ستا

أَنْ تَزْرَعَ فِي قَلْبِي مَعْرِفَتَكَ حَتَّى

چہ او کرے خما پہ زہہ کنہے خیل معرفت تردے پورے

أَعْرِفَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ كَمَا يَتَّبِعُ أَنْ

چہ او پیژنم تالرہ پہ حق پیژندلو سرہ خنکہ چہ بنائیری

أَنْ تُعْرِفَ بِهِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا

چه او پیژندے ہے ته په هغه سره. او رحمت د الله دوي په سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَإِمَامِ الْمُرْسَلِينَ

محمد باندے چه ختمونکے د نبیانودے او امام د مرسلانودے

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَأُحْمَدُ

اوپه آل دهغوی اوپه اصحابو دهغوی او سلام پرے اولیرے دیر. او تبول

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ اللَّهُمَّ اغْفِرْ

تعریفونه خاص الله د پاره دي چه رب دعا لمونودے. اے الله او بخښے

لِمَوْلَانِي وَأَرْحَمَهُ وَاجْعَلْهُ مِنْ

مؤلف ددے کتاب او رحم پرے او کرے او وے مخخوے د

الْمَحْشُورِينَ فِي زُمْرَةِ النَّبِيِّينَ ○ وَ

پاسیدونکو نه په زمره د پیغمبرانو کښے او

الصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ

په صدیقانو او شهیدانو او صالحانو کښے

بِفَضْلِكَ يَا رَحْمَنُ ○ وَاغْفِرِ اللَّهُمَّ لَنَا

په خپله مهرباني سره اے ډیر رحم کونکيه. او او بخښے اے الله مونږه

وَلَوْلَا الدِّينَا وَلَا سِتَادِيْنَا وَلَمْ شَأْنِ خَنَا وَ

او زمونږ مور پلار او زمونږه استاذان او زمونږه بزرگان او

بِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ

ټول مومنان سړي او مومنانے ښځے او مسلمانان سړي

وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ

او مسلمانانے ښځے کوم چه ژوندي دي په دوی کښے او کوم چه مړه دي

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ○ وَ

په خپله رحمت سره اے دټولونه زیات رحم کونکيه. او دا

أَنْ تَتُوبَ عَلَيْهِ إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

چه نظر د رحمت او کرے په ده باندے بیشکه ته ډیر بخښونکے مهربان

اللَّهُمَّ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ○ ثُمَّ

ئے یا الله دا دعا قبوله کرے زمونږ اے دټولو مخلوقاتو ربه. بیا د

تَقْرَأْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَرَّةً  
او ويلے شي دا کلمات خوارلس خلے

وَهِيَ هَذِهِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى بَدْرِ التَّمَامِ  
او هغه دادی: اے اللہ رحمت او لیرے د خوار لسمے شیے سپوز میء باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ الظَّلامِ ○ اللَّهُمَّ  
اے اللہ رحمت او لیرے د تیارو په رنرا باندے... اے اللہ

صَلِّ عَلَى مِفْتَاحِ دَارِ السَّلَامِ ○ اللَّهُمَّ  
رحمت او لیرے په کتیجی دتولو خلقو باندے..... بیاد

صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ فِي جَمِيعِ الْأَنَامِ ○ ثُمَّ  
رحمت او لیرے په شفیع دتولو خلقو باندے... بیاد

تَقْرَأْ هَذِهِ الرَّبِّيَّاتُ الْمَنَسُوبَةُ لِلْمَوْلَفِ  
دا شعرونه او لوستے شي کوم چه منسوب دي مولف د دے کتاب ته

يَا رَحْمَةَ اللَّهِ إِيَّيْ خَائِفٌ وَجِلٌ ○  
اے رحمته د اللہ بیشکه زه پریدونکے لرزیدونکے یم

يَا نِعْمَةَ اللَّهِ إِيَّيْ مُفْلِسٌ عَانٌ ○  
اے داللہ نعمته بیشکه زه مفلس او عاجزه یم

وَلَيْسَ لِي عَمَلٌ أَلْقَى الْعَلِيمَ بِهِ ○  
او نیشته دے ماسره داسے عمل چه ملاؤشم اللہ سره په هغه سره

سِوَى مَحَبَّتِكَ الْعُظْمَى وَإِيمَانِي ○  
سوا ستا د عظیم محبت نه او د ایمان خیل نه

فَكُنْ أَمَانِي مِنْ شَرِّ الْحَيَاةِ وَمِنْ ○  
پس شه پناه خما د ژوند د شر نه او د

شَرِّ الْمَمَاتِ وَمِنْ إِحْرَاقِ جُثْمَانِي ○  
مرگ د شر نه او دسوزیدلو د بدن خمانه

وَكَنْ غِنَايَ الَّذِي مَابَعْدَهُ فَلَاسُ ○  
او شه ته غنی والے خما چه هغه نه پس محتاجی نه وی

وَكَنْ فِكَارِي مِنْ أَغْلَالِ عَصِيَانِي ○  
او شه خلاصے خما د طوقونو د گناه خمانه

تَحِيَّةُ الصَّهْدِ الْمَوْلَى وَرَحْمَتُهُ ○

تحفہ دے نیازہ مالک او رحمت دہفہ

مَا عَنَّتِ الْوُرُقُ فِي أَوْراقِ عَصَانٍ ○

ترخوپورے چہ آوازونہ کوی گوگو شکتے دنباخونوپہ بانرو باندمے

عَلَيْكَ يَا عُرْوَتِي الْوُثْقَى وَيَا سِدْرِي ○

پتا باندمے اے خما لونے مضبوطے وسیلے او خما سندنہ

الْأَوْفَى وَمَنْ مَدَّحَهُ رُوحِي وَكَيْمَانِي ○

کاملہ او ہفہ کسہ چہ دہفہ تعریف خما تازگی او خما گل دے

ثُمَّ تَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ لِلْمَوْلَى وَ

بیا داو لوستے شی سورۃ فاتحہ د پارہ دمؤلف او

هَذَا اللَّهُ عَائِدٌ يُقْرَأُ عَقِيْبَ خْتَمِ

دا دعا داو لوستے شی روستو دختم

دَلَائِلُ الْخَيْرَاتِ

دلائل الخیرات نہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع کوم پہ نوم دالله سرہ چہ ڈیر بخینونکے مہربان دے

اللَّهُمَّ اشْرَحْ بِالصَّلَاةِ عَلَيهِ صُدُورَنَا ○

اے اللہ پرانزے پہ درود لیکلو سرہ پہ ہفوی باندمے سینے زمونیرہ

وَيَسِّرْ لَهَا أُمُورَنَا ○ وَفَرِّجْ بِهَا هُمُومَنَا ○

اواسان کرے پہ ہفے سرہ کارونہ زمونیرہ اولے کرے پہ ہفے سرہ پریشانی

وَاجْشِفْ بِهَا غُمُومَنَا ○ وَاعْفِرْ لَهَا

زمونیرہ اولے کرے پہ ہفے سرہ غمونہ زمونیرہ او او بخینے پہ ہفے سرہ

ذُنُوبَنَا ○ وَأَقْضِ بِهَا دِيُونَنَا ○ وَأَصْلِحْ

گناہونہ زمونیرہ او ادا کرے پہ ہفے سرہ قرضونہ زمونیرہ او درست کرے

بِهَا أَحْوَالَنَا ○ وَبَلِّغْ بِهَا أَمَلَنَا ○ وَ

پہ ہفے سرہ احوال زمونیرہ او اورسومے پہ ہفے سرہ امید ونہ زمونیرہ او

تَقْبَلْ بِهَا تَوْبَتَنَا ○ وَاعْسِلْ بِهَا

قبولہ کرے پہ ہفے سرہ توبہ زمونیرہ او اووینخے پہ ہفے سرہ

## دَرُودٌ مُقَدَّسٌ

درود مقدس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَتِ اَقْوَالِ مُحَمَّدٍ وَّ اَفْعَالِ مُحَمَّدٍ

یا الہی! بحرمت اقوال محمد اور افعال محمد

وَّ اَحْوَالِ مُحَمَّدٍ وَّ اصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ

اور احوال محمد اور اصحاب محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَّ سَلَّمَ يَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَتِ بَدَنِ مُحَمَّدٍ

علیہ وسلم یا الہی! بحرمت بدن محمد

وَّ بَطْنِ مُحَمَّدٍ وَّ بَرَكَةِ مُحَمَّدٍ وَّ بَيْعَةِ مُحَمَّدٍ وَّ

اور بطن محمد اور برکت محمد اور بیعت محمد اور

بِرَاقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَّ سَلَّمَ يَا اَللّٰهُمَّ

براق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی!

بِحُرْمَتِ تَوْلَادِ مُحَمَّدٍ وَّ تَعْبُدِ مُحَمَّدٍ وَّ تَهَجُّلِ

بحرمت تولد محمد اور تعبد محمد اور تہجیل

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَّ سَلَّمَ يَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَتِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی! بحرمت

ثَنَاءِ مُحَمَّدٍ وَّ ثَوَابِ مُحَمَّدٍ وَّ ثَنَاتِ مُحَمَّدٍ

ثناء محمد اور ثواب محمد اور ثنات محمد

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَّ سَلَّمَ يَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ جِوَالِ

صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی! بحرمت جوال

مُحَمَّدٍ وَّ جِبَالِ مُحَمَّدٍ وَّ جِلِّ مُحَمَّدٍ وَّ وَجْهَةِ

محمد اور جبال محمد اور جبل محمد اور وجہ

مُحَمَّدٍ وَّ جَعْدِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَّ سَلَّمَ

محمد اور جعد (کیسو) محمد صلی اللہ علیہ وسلم

يَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ حَسَنِ مُحَمَّدٍ وَّ حَسَنَاتِ

یا الہی! بحرمت حسن محمد اور حسنات

مُحَمَّدٍ وَّ حُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَّ حَالِ مُحَمَّدٍ وَّ حَلِيَّةِ

محمد اور حرمت محمد اور حال محمد اور حلیت

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَّ سَلَّمَ يَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی! بحرمت

خَلْقَةَ مُحَمَّدٍ وَخَلَقَ مُحَمَّدًا وَخُطِبَةَ مُحَمَّدٍ

خَلَقْتَ مُحَمَّدًا اور خلق محمد اور خطابت محمد

وَخَيْرَاتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلَهِي

اور خيرات محمد صلى الله عليه وسلم يا الهى!

بِحُرْمَةِ دِينِ مُحَمَّدٍ وَدِيَانَةِ مُحَمَّدٍ وَدَوْلَةِ

بحرمت دين محمد اور ديانت محمد اور دولت

مُحَمَّدٍ وَدَرَجَاتِ مُحَمَّدٍ وَدَعَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

محمد اور درجات محمد اور دعاء محمد صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلَهِي بِحُرْمَةِ ذَاتِ مُحَمَّدٍ

الله عليه وسلم يا الهى! بحرمت ذات محمد

وَذِكْرِ مُحَمَّدٍ وَذَوْقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور ذكر محمد اور ذوق محمد صلى الله عليه

وَسَلَّمَ يَا أَلَهِي بِحُرْمَةِ رُوحِ مُحَمَّدٍ وَرَأْسِ

وسلم يا الهى! بحرمت روح محمد اور راس

مُحَمَّدٍ وَرِزْقِ مُحَمَّدٍ وَرَفِيقِ مُحَمَّدٍ وَرِضَاءِ

محمد اور رزق محمد اور رفيق محمد اور رضاء

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلَهِي بِحُرْمَةِ

محمد صلى الله عليه وسلم يا الهى! بحرمت

زُهْدِ مُحَمَّدٍ وَزُهَادَةِ مُحَمَّدٍ وَزَارِعِي مُحَمَّدٍ وَ

زهده محمد اور زهد محمد اور زارعي محمد اور

زِينَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلَهِي

زينت محمد صلى الله عليه وسلم يا الهى!

بِحُرْمَةِ سَيَادَةِ مُحَمَّدٍ وَسَعَادَةِ مُحَمَّدٍ وَسُنَّةِ

بحرمت سيادت محمد اور سعادت محمد اور سنت

مُحَمَّدٍ وَسَبْرِ مُحَمَّدٍ وَسَلَامِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

محمد اور سبر محمد اور سلام محمد صلى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلَهِي بِحُرْمَةِ شَرَعِ مُحَمَّدٍ

عليه وسلم يا الهى! بحرمت شرع محمد

وَشَرَفِ مُحَمَّدٍ وَشَوْقِ مُحَمَّدٍ وَشَادِ مُحَمَّدٍ

اور شرف محمد اور شوق محمد اور شاد محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَلَهِي بِحُرْمَةِ

صلى الله عليه وسلم يا الهى! بحرمت

صِدْقِ مُحَمَّدٍ وَصَوْمِ مُحَمَّدٍ وَصَلْوَةِ مُحَمَّدٍ

صدق محمد اور صوم محمد اور صلوة محمد

وَصَفَاءِ مُحَمَّدٍ وَصَبْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور صفاء محمد اور صبر محمد صلى الله عليه

وَسَلَامٍ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ ضِيَاءِ مُحَمَّدٍ وَضَمِيرِ

وسلم يا الهي! بحرمت ضياء محمد اور ضمير

مُحَمَّدٍ وَضَحَاءِ مُحَمَّدٍ وَوَضْعِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

محمد اور ضحاه محمد اور وضع محمد صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ طَلْعَةِ

الله عليه وسلم يا الهي! بحرمت طلعت

مُحَمَّدٍ وَطَهَارَةِ مُحَمَّدٍ وَطَهْرِ مُحَمَّدٍ وَطَرِيقِ

محمد اور طهارة محمد اور طهر محمد اور طريق

مُحَمَّدٍ وَطَوَافِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

محمد اور طواف محمد صلى الله عليه وسلم

يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ ظَاهِرِ مُحَمَّدٍ وَظَهْرِ مُحَمَّدٍ وَ

يا الهي! بحرمت ظاهر محمد اور ظهر محمد اور

ظَلِّ مُحَمَّدٍ وَظُهُورِ مُحَمَّدٍ وَظَفْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

ظلل محمد اور ظهور محمد اور ظفر محمد صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ عَشْقِ

الله عليه وسلم يا الهي! بحرمت عشق

مُحَمَّدٍ وَعَرَافَاتِ مُحَمَّدٍ وَعِلْمِ مُحَمَّدٍ وَعُلُوِّ

محمد اور عرفات محمد اور علم محمد اور علو

مُحَمَّدٍ وَعَلِيمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

محمد اور عليم محمد صلى الله عليه وسلم

يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ غُرْبَتِ مُحَمَّدٍ وَغَارِ مُحَمَّدٍ

يا الهي! بحرمت غربت محمد اور غار محمد

وَعُرْتِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرَتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور عرت محمد اور غيرت محمد صلى الله عليه

وَسَلَامٍ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ قَلْبِ مُحَمَّدٍ وَقَدْرِ

وسلم يا الهي! بحرمت قلب محمد اور قدر

مُحَمَّدٍ وَقِنَاعَةِ مُحَمَّدٍ وَقُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

محمد اور قناع محمد اور قوت محمد صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ فِخْرٍ

اللہ علیہ وسلم یا الہی! بجزمت فخر

مُحَمَّدٍ وَفَقْرٍ مُحَمَّدٍ وَفِرَاقٍ مُحَمَّدٍ وَفَضْلٍ

محمد اور فقر محمد اور فراق محمد اور فضل

مُحَمَّدٍ وَفَضِيلَةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

محمد اور فضیلت محمد صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ كَلَامِ مُحَمَّدٍ وَكَشْفِ

وسلم یا الہی! بجزمت کلام محمد اور کشف

مُحَمَّدٍ وَكُوشِشِ مُحَمَّدٍ وَكِتَابَتِ مُحَمَّدٍ

محمد اور کوشش محمد اور کتابت محمد

وَكَيْنَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور کینت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ لَيْلِ مُحَمَّدٍ وَلِقَاءِ مُحَمَّدٍ

یا الہی! بجزمت لیل محمد اور لقاء محمد

وَلِيَاقَةِ مُحَمَّدٍ وَمُجَاهَدَاتِهِ مُحَمَّدٍ وَسَاهِدَاتِهِ

اور لیاقت محمد اور مجاہدات محمد اور مشاہدات

مُحَمَّدٍ وَمُلَاحِظَةِ مُحَمَّدٍ وَمَسَاحَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

محمد اور ملاحظہ محمد اور مساحت محمد صلی

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ نَارِ مُحَمَّدٍ

اللہ علیہ وسلم یا الہی! بجزمت ناز محمد

وَنَارِ مُحَمَّدٍ وَنَصِيرِ مُحَمَّدٍ وَتَقْيِيرِ مُحَمَّدٍ

اور ناز محمد اور نصیر محمد اور تقیر محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ

صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی! بجزمت

وَرُودِ مُحَمَّدٍ وَوَقَائِ مُحَمَّدٍ وَوُجُودِ مُحَمَّدٍ

ورد محمد اور وقایہ محمد اور وجود محمد

وَوُدِّيْعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور ودیعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ هَمَّةِ مُحَمَّدٍ وَهَدَايَةِ مُحَمَّدٍ

یا الہی! بجزمت ہمت محمد اور ہدایت محمد

وَهَدْيَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور ہدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

من حاجی عجب خان نقشبندی سیفی حنفی قوم احمدزی در جرایم سنگین مقابل جهنمیان عارض هستم که در هوتل اورانوس بالای حلقه ذاکرین ولی اله جرم انتحار را انجام داده اند.

در مقابل این خوارج و داعشیان به تعداد 9 کتاب وجود دارد هر کسیکه قدرت و توان چاپ اش را داشته باشد باید به هر زبان ترجمه نماید و خدمت به اسلام نماید. سردار قوم خدمتگار قوم است باید از خارجی ها یاد بگیریم بخاطریکه هر کتاب را که پیدا میکنند به زبان خود ترجمه نمایند. منکرین حق همراه اقرار از مسائل حق انکار میکند و آن اشخاص الکاذبو لا امتی است.

تجمع گروه ضد اسلامی به نام (سیان) در شهر (کریستیناسند) برگزار و به سوزاندن یک جلد قرآن مجید پرداختند. لارس تورسن سرکرده این گروه در این تجمع برخی از صفحات قرآن کریم را داخل سطل زباله انداخت و به دنبال این اقدام یکی از افراد شاهد این اهانت با شخص درگیر شد و مانع وی شد.

پولیس در حال سرکرده این گروه ضد اسلامی و افراد مهاجم را بازداشت کرد که این شخص پیشتر نیز به جامعه مسلمانان ناروی در اسلو اهانت کرده بود.

دشمنی خود با مسلمانان را به تمام جهان علنی نشان دادند و نام نهاد گستاخان خوارج و روافض به ذریعه ترجمه قرآن و پیروان شان امت محمد مصطفی (ص) را میخواهد به آتش جهنم بیاندازد و آن علایم دشمنی به مسلمانها مثل آفتاب روشن است.

و آن شخص منافقین آخر زمان که در کشور انجام دادند ظالمان به دهن شیرین و قلب تلخ میباشد و به زبان دعوی اسلام دارند اما در قلب از آنکار میکنند و حادثه فوق الذکر را گمراهان ، ملحدین ، زندیقین و مرتد دین انجام داده و باید به مناظره علنی مشایخ احناف حاضر شوند.

نمایندگان خوفیه و گستاخان خوفیه که این کار را انجام داده کفر خویش را بر ملا کنند.

نام نهاد مسلمانها کاذبان است الکاذب لا امتی

من حاجي عجب خان نقشبندي سيفي حنفي قوم احمدزي در جرايم سنگين در مقابل همان جهنميان عارض هستم که در هوتل اورانوس بالای حلقه ذاکرين ولي الله جرم انتحار را انجام داده اند.

در مقابل اين خوارج و داعشيان به تعداد نه کتاب وجود دارد هر کسیکه قدرت و توان چاپ اش را داشته باشد باید به هر زبان ترجمه نماید و خدمت به اسلام نماید.

سردار قوم خدمتکار قوم است

باید از خارجي ها ياد بگیريم بخاطريکه هر کتاب را که پيدا میکنند به زبان خود ترجمه مينمايند.

منکرين حق همراه اقرار از مسائل حق انکار میکنند و آن اشخاص الکاذبو لا امتي است.

قرآن شريف را علني به آتش کشيدند دشمني علني به مسلمانها به چشم سر در فیسبوك دیده شد و دشمني خود با مسلمان را به تمام جهان علني نشان دادند و نام نهاد گستاخان خوارج و روفض به ذریعه ترجمه قرآن و پیروان شان امت محمد مصطفي (ص) را میخواهد که به آتش جهنم بي اندازند و آن علايم دشمني به مسلمانها به مثل آفتاب و مهتاب روشن است.

و آن اشخاص منافقين آخر زمان که در کشور انجام دادند ظالمان به دهن شیرين و قلب تلخ میباشد و به زبان دعوي اسلام دارند اما در قلب از آن انکار میکنند و حادثه فوق الذکر را گمراهان ، ملحدین ، زندیقین و مرتد دین انجام داده و باید به مناظره علني مشايخ احناف حاضر شوند.

نماینندگان خوفيّه و گستاخان خوفيّه که اين کار را انجام داده کفر خویش را بر ملا کنند.

نام نهاد مسلمانها کاذبان است الکاذب لا امتي

يَا اَللّٰهُمَّ يَا رُبِّيْ مُحَمَّدٍ وَيَا كُنِّيَّ مُحَمَّدٍ صَلَّى

يا الهی! یاری محمد اور یگانگی محمد صلی

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ

اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اللہ کے

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

سوا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و

اَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ دَمَاهُ هُوَ الْمَكْتُوبُ فِي

اصحابہ وسلم بعد اس تعداد کے مطابق جو

لَوْحٍ وَالْقَلَمِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَوَلِيْلَةٌ وَسَاعَةٌ وَ

لوح و قلم میں لکھی ہوئی ہے ہر دن اور رات میں، ہر ساعت میں

نَقْسٍ وَالْمُحَيَّةِ اَلْفِ مِائَةِ اَلْفِ مَرَّةٍ اِلَى يَوْمِ

اور سانس میں دس کروڑ مرتبہ یوم علم یعنی قیامت

الْعِلْمِ اَلْاٰتِ اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

سہم آگاہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ تو خوف طاری ہوگا اور نہ ہی

هَمٌّ يَجْزَوْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

وہ غم زوہ ہوں گے تیری رحمت کیساتھ لے سب زیادہ رحم کرنے والے



الْقَائِمَةِ اَي مُحَمَّدٍ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَاللَّجَّةَ  
جو قائم ہونیوالی ہے محمد کو وسیلہ دے اور بزرگی اور درجہ  
الرَّفِيْعَةَ وَاَبْعَثَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ  
بلند اور یعنی ان کو مقام محمود میں پہنچا دو جس کا تو نے ان سے وعدہ  
وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط اِنَّكَ لَا تَخْلِفُ  
کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب کر بیشک تیرا وعدہ  
السَّبْعَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط مَسَارِ  
خلاف نہیں ہوتا اپنی رحمت سے اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے  
سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَ  
اے خدا میرا دل تیری باری اور تعریف بیان کرتا ہے اور مبارک ہے تیرا نام اور  
تَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ  
بلند ہے تیری شان اور بجز تیرے کوئی معبود نہیں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی  
مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ  
شیطان مردود سے شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم  
الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ  
والا مہربان ہے تعریف اور کمال کی کل بائیں اللہ کیلئے خاص ہیں جو جہاں کا پالنے والا ہے

الرَّحِيْمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ط اِيَّاكَ نَعْبُدُ  
نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے مالک ہے قیامت کے دن کا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اللہ  
اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ط اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ  
تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم کو راہ راست کی ہدایت فرما یعنی  
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ  
ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے احسان کیا ہے اور نہ تباہی ان لوگوں  
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ط اٰمِيْنَ ط قُلْ هُوَ اللّٰهُ  
کی راہ جن پر تیرا غضب ہوا اور ان کی راہ جو گمراہ ہوئے ہماری یہ دعا قبول کر کہ سے اے خدائے  
اَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْهُ لَمْ يُوْلَدْ وَ  
اللہ ایک ہے اللہ لے نیاز سے نہیں جتا اس نے اور نہ جنا گیا ہے اور  
لَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ط يَا اَوْ كُوْنِيْ بِحَمْدِكَ كُرْبًا  
سو تو پڑھے پھر اللہ اکبر کہہ کر کجوع  
نہیں ہے کوئی اس کی برابری کرنے والا اللہ بہت بڑا ہے  
اور تین نغمے سبحن ربی العظیم پھر اللہ اکبر کہہ کر سیدھا  
پاک ہے میرا رب عظمت والا اللہ بہت بڑا ہے  
اور پڑھے سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَكَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ  
جو کوئی اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ اس کو سنتا ہے اے پروردگار تعریف تیرے لیے ہے





وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ط دونوں طرف منہ السلام علیکم  
اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے سلامتی ہو تم پر

وَرَحْمَةُ اللَّهِ ط سلامتی ہو اللہ کی سلامتی ہو تم پر اور رحمت ہو اللہ کی  
دُعَا اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَالْيَكِّ

الهی تو سلامتی والا ہے اور جو سلامتی ہے تجھ ہی سے ہے اور تیری  
یَرْجِعُ السَّلَامَ حَيْثُ بَارَبْنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخَلْنَا ط

طرف سلامتی رجوع ہوتی ہے اسے خدا ہم کو سلامتی اور امن کے ساتھ زندہ رکھو اور داخل کر  
دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ سَابْنَا وَتَعَالَيْتَ يَا

کونست میں برکت والا ہے تو اسے رب ہمارے اور تیرا مرتبہ بلند ہے اسے  
ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ط دُعَا قَوْتِ اللَّهُمَّ إِنَّا

جلال و بزرگی والے الہی ہم مدد  
نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ

چاہتے ہیں تجھ سے اور معافی مانگتے ہیں تجھ سے اور ایمان لاتے ہیں تجھ پر اور تھوڑا سا  
عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ

رکھتے ہیں تجھ پر اور تعریف کرتے ہیں تیری اچھی اور شکر کرتے ہیں تم پر اور ناشکری نہیں کرتے

وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ ط اللَّهُمَّ إِنَّا ك

ہم تیری اور ہم ان سے الگ اور علیحدہ رہتے ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں تیری الہی تیرے ہی لئے  
تَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَالْيَكِّ تَسْعَى ط

عبادت ہے اور تیرے ہی لئے ہماری نماز اور سجدہ ہے اور تیری ہی طرف ہماری دوسرے  
وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ

اور ہم تیری خدمت میں حاضر ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور ڈرتے ہیں تیرے عذاب  
إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ ط

بیشک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے  
دُعَا سَجْدَةِ تِلَاوَتِ سَجْدَةٍ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ

سجدہ تلاوت میں یہ دو معاین بار پڑھے میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ہی کیلئے جس نے اسے پیدا  
وَصُورَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَ

کیا اور اس کی صورت بنائی اور کھولے اس کے کان اور آنکھیں اپنی خاص حفاظت اور  
قُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

امداد کے ساتھ برکت والا ہے اللہ بہت اچھا پیدا کرنے والا ہے  
قرآن مجیدی لمیٹڈ ۳۸- اردو بازار لاہور پاکستان ۵۳۸۳۹ فون ۳۳۳۴۱۸



## دُرُودِ كِبْرِيَّتِ أَحْمَرَ

دُرُودِ كِبْرِيَّتِ أَحْمَرَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم کرنے والے ہیں

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَدَدًا وَأَنْحٰی

اے اللہ نازل کیجئے اپنی رحمتوں میں سے بہترین رحمت باعتبار شمار کے اور

بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا وَأَزْكَى تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَمَدَدًا

اپنی سب سے زیادہ تریختوں کو باعتبار دوام کے اور اپنے مسلمانوں میں پاکیزہ تر کو باعتبار فضل

عَلَى أَشْرَفِ الْحَقَائِقِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَمَعْدِنِ

اور معدن کے اوپر بزرگ ترین حقیقتوں انسانیت کے اور کان ایمان

الدَّقَائِقِ الْإِيْمَانِيَّةِ وَطُورِ التَّجَلِّيَّاتِ الْإِنْسَانِيَّةِ

والی باریکیوں کے اور اوپر طور (نام پہاڑ کا) احسانی تجلیات کے

وَمَهْبَطِ الْأَسْرَارِ الرَّحْمٰنِيَّةِ وَوَاسِطَةِ عَقْدِ

اور جائے نزول خداوندی بھیدوں کے اور پیوند دہیے والے گرہ

التَّبَيِّينِ وَمَقْدَمَةِ جَيْشِ الْمُرْسَلِينَ وَ

پیشانیوں کے اور ہراول لشکر پیغمبروں کے اور

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ

ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل، آپ کے اصحاب اور

وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ

مطہرات، اولاد اور اہل بیت پر اور تیرے تمام اطاعت شعاروں

أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ

پر ہو جو آسمانوں اور زمینوں پر رہتے ہیں اسے تم کرنے

بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا كَرَمَ

والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور لے کر کرنے والوں

الْأَكْرَمِينَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا

میں سب سے زیادہ کریموں نے اپنی رحمت سے (میری یہ التجا قبول فرما) حق تعالیٰ ہمارے

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلَّمَ

آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور تمام اصحاب پر ہمیشہ ہمیشہ

تَسْلِيمًا دَائِمًا أَبَدًا كَثِيرًا كَثِيرًا

رحمت و سلامتی نازل فرمائے بہت زیادہ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور ہر قسم کی حمد و ثنا حق تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے

أَفْضَلِ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ حَامِلِ لَوَاءِ  
اور بہترین جملہ مخلوقات اٹھانے والے جھنڈے بزرگی  
الْعِزِّ الْأَعْلَى وَمَلِكِ أَرْمَةِ الشَّرَفِ الْأَسْنَى  
بڑی کے اور مالک ہماروں بزرگی روشن تر کے  
شَاهِدِ أَسْرَارِ الْأَزَلِ وَمُشَاهِدِ الْأَنْوَارِ  
واقف بھیدوں ازل کے اور دیکھنے والے انوار کے جو  
السَّابِقِ الْأَوَّلِ وَتَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقَدَمِ  
سابق اور پہلے ہیں اور بیان کرنے والے زبان ہمیشگی کے اور  
مَنْبِجِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمِ وَمَظْهَرِ سِرِّ  
چشمہ علم اور بردباری اور حکمتوں کے اور جائے ظہور بھید  
الْجُودِ الْجَزْنِيِّ وَالْكَلْبِيِّ وَالنَّسَانِ عَيْنِ الْوَجُودِ  
بخشش جزئی اور کلی کے اور پہلی آنکھ ہستی علوی  
الْعُلُوبِيِّ وَالسُّفْلِيِّ وَرُوحِ جَسَدِ الْكُونِيِّ  
اور سفلی کے اور جان جسم دونوں جہان کے اور  
عَيْنِ حَيَاتِ الدَّاسِيَيْنِ الْمُنْتَخَلِقِ بِأَعْلَى  
اصل زندگی دنیا اور آخرت کے توگیر ساتھ بزرگی

رُتْبَةِ الْعِبَادِيَّةِ الْمَتْحَقِّقِ بِأَسْرَارِ الرَّبُوبِيَّةِ  
رتبہ بندگی کے ثابت آراستہ ساتھ بھیدوں ربوبیت کے  
صَاحِبِ الْمَقَامَاتِ الْأَصْطِفَائِيَّةِ وَالذِّكْرَامَاتِ  
صاحب مقامات برکزدگی کے اور کرامات  
الْإِرْتِنَابِيَّةِ سَيِّدِ الْأَشْرَافِ وَجَامِعِ الْأَوْصَافِ  
پسندیدگی کے سردار بزرگوں کے مجمع اوصاف حمیہ کے  
الْخَلِيلِ الْأَعْظَمِ وَالْحَبِيبِ الْأَكْرَمِ الْمَخْصُوصِ  
جو صاحب عظمت دوست ہیں اور محبوب ہیں کرم خاص کئے گئے  
بِأَعْلَى الْمَرَاتِبِ وَالْمَقَامَاتِ وَالْمُؤَيَّدِ بِأَوْصَافِ  
ساتھ بلند مرتبوں کے اور مقاموں کے اور مدد کئے گئے ساتھ روشن  
الْبِرَاهِينِ وَالذَّلَالَاتِ الْمَنْصُورِ بِالرُّعْبِ  
تیز دلیلوں اور رہنمائیوں کے مدد کئے گئے ساتھ رعب کے اور  
الْمُعْجَزَاتِ وَالْجَوْهَرِ الشَّرِيفِ الْأَيْدِيِّ وَالنُّورِ  
معجزات کے اور جوہر بزرگ دائمی اور نور قدیم  
الْقَدِيمِ الْحَمْدِيِّ السَّرْمَدِيِّ سَيِّدِنَا  
محمّدی سردمداری کے سردار ہمارے

مُحَمَّدٌ الْمَحْمُودُ فِي الْإِبْجَادِ وَالْوَجُودِ الْقَائِمُ  
محمد کے پسندیدہ بیخ پیدائش کے اور ہستی کے ابتدا کرنے والے  
لِكُلِّ شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَحَضْرَةِ الشَّاهِدِ  
واسطے ہر ایک دیکھنے والے اور دیکھے گئے کے اور درگاہ مکاؤں روشنی  
وَالشَّهَادَةِ نَوْرٍ كُلِّ شَيْءٍ وَوَهْدَاهُ وَسِرِّ كُلِّ  
اور ظاہر ہونے کے نور ہر چیز کے اور راہنما اس کے اور بھید ہر  
سِرٍّ وَسَنَاهُ الَّذِي شَقَّقَتْ مِنْهُ الْأَسْرَارُ  
بھید کے اور روشنی اس کے وہ ذات کہ کھولے گئے اس سے بھید  
وَأَنْفَلَقَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ السِّرَّ الْبَاطِنِ وَالنُّورِ  
اور روشن ہوئے اس سے انوار باطن کے بھید کے اور نور  
الظَّاهِرِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْقَائِمِ الْخَاتِمِ الْأَوَّلِ  
ظاہر کے سردار کامل ابتداء کرنے والے تمام کرنے والے اول  
الْآخِرِ الْبَاطِنِ الظَّاهِرِ الْعَاقِبِ الْخَاتِمِ النَّاهِي  
آخر پرستیدہ ظاہر پیچھے آنے والے اٹھانے والے منع کرنے والے  
الْأَمْرِ النَّاصِحِ النَّاصِرِ الصَّابِرِ الشَّاكِرِ الْقَائِمِ  
سلم کرنے والے نصیحت کرنے والے مدد دینے والے صبر کرنے والے شکر کرنے والے دُعا مانگنے والے

الدَّاكِرِ الْمَاجِي الْمَاجِدِ الْعَزِيزِ الْحَامِدِ  
ذکر کرنے والے مٹانے والے بزرگ غالب حمد کرنے والے  
الْمُؤْمِنِ الْعَابِدِ الْمُتَوَكِّلِ الرَّاهِدِ الْقَائِمِ  
یقین کرنے والے عبادت کرنے والے توکل کرنے والے زہر کرنے والے کھڑے ہونے والے  
الْقَاعِدِ الرَّكَعِ السَّاجِدِ التَّائِبِ الشَّهِيدِ الْوَلِيِّ  
نمازیں بیٹھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے تائب گواہ دوست خدا  
الْحَمِيدِ الْبُرْهَانَ الْحُجَّةِ الْبَطَاءِ الْمَخْتَارِ  
ستودہ دلیل حجت اطاعت کئے گئے برگزیدہ  
الْخَاضِعِ الْخَاشِعِ الْبِرِّ الْمُسْتَنْصِرِ الْحَقِّ الْبَيِّنِ  
عجز کرنے والے فروتنی کرنے والے نیک مدد کرنے والے راست و روشن  
ظُهُ يُسِّ الْمَزْمَلِ الْمَدْرَسِيِّ الْمُرْسَلِ  
ظہر یس کیل پوش چادر پہننے والے سردار پیغمبروں کے  
وَأَمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَوَحِيدِ  
اور پیشوا پرہیزگاروں کے اور آخر تمام نبیوں کے اور دوست  
رَبِّ الْعَالَمِينَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالرَّسُولِ  
پروردگار تمام جہانوں کے پیغمبر برگزیدہ اور رسول

المجتبى والحكم العدل اللطيف الخبير

مقبول اور منصف عادل پاکیزہ خیردار

الحكيم العليم العزيز الرؤوف الرحيم الغفور

دانا جاننے والے غالب محبت والے مہربان بخشنے والے

الشكور العلي الكريم نورك القديم و

شکر کرنے والے برتر بزرگ آپ کے نور قدیم اور

صراطك المستقيم محمد عبدك و

راہ آپ کی جو سیدھی ہے محمد بندے تیرے اور

رسولك وصفيك وخليك وحيبك و

رسول تیرے اور برگزیدہ تیرے اور دوست تیرے اور حبیب تیرے اور

وليك ونيبك وامينك ودليلك ونجيك و

ولی تیرے اور نبی تیرے اور امانت دار تیرے اور تیرا دستہ دکھانے والا اور ہمارا تیرے

ونخبتك وذخيرتك وخيرتك وامام

اور برگزیدہ تیرے اور ذخیرہ تیرے اور خزانہ تیرے اور پیشوا

الخير وقائد الخير ورسول الرحمة النبي

خیر کے اور کھینچنے والے نیکی کے اور بھیجے ہوئے واسطے رحمت کے پیغمبر

الارحمي العربي القرشي الهاشمي الابطحي

انہی عرب کے رہنے والے قبیلہ قریش سے اولاد سے ہاشم کے بطحا والے

المكي المدني التهامي الشاهد المشهود

مکہ والے مدینہ والے تمامہ والے گواہ گواہی دینے والے

الولي المقرب العبد المسعود الحبيب الشفيق

دوست مقرب بندے نیک محبوب سفارش کرنے والے

الحبيب الرفيع البليغ الواعظ

صاحب حسب بلند مرتبہ ملاحظت والے نادر نصیحت کرنے والے

البنير التذير العطوف الحليم الجواد الكريم

بشارت دینے والے ڈرانے والے بہت مہربان تحمل والے سخی بخشش کرنے والے

الطيب المبارك المكين الصادق المصدق

پاک صاحب برکت صاحب مرتبہ سچے سچا کئے گئے

الامين الداعي اليك يا ذنك السراج المنير

امانت دار بلانے والے غلق کے طرف تیرے علم تیرے سے چراغ روشن

الذي ادرك الحقائق بجنتها وفاق

ایسے کہ جس نے جانا اصل چیزوں کو تمام دکھال اور کامیاب ہوئے اور بالا



الْخَلَائِقِ بِرِقَّتِهَا وَجَعَلْتَهُ حَبِيبًا وَنَاجِيَتَهُ  
ہونے مخلوقات پر ساری اور بنایا تو نے ان کو دوست اور ہوا کیا تو نے ان کو  
قَرِيْبًا وَأَدْنَيْتَهُ رَقِيْبًا وَخَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ  
قرب ہے اور نزدیکی دی تو نے ان کو نگہبان ہو کر اور ختم کیا تو نے ان پر رسالت  
وَالدَّلَالَةَ وَالْبَشَارَةَ وَالنَّذَارَةَ وَالنُّبُوَّةَ وَ  
اور راہنمائی اور خوش خبری اور ڈرانے اور پیغمبری کو اور  
نَصْرَتَهُ بِالرُّعْبِ وَظَلَمْتَهُ بِالسَّعْبِ وَرَدَدْتِ  
مدد کی تو نے ان کی ساتھ دہشت کے اور سایہ دیا تو نے ان کو ایسا اور پھیرا تو نے  
لَهُ الشَّمْسَ وَشَقَقْتَ لَهُ الْقَمَرَ وَأَنْطَقْتَ لَهُ  
واسطے ان کے آفتاب کو اور چھایا تو نے واسطے ان کے چاند کو اور گوایا تو نے واسطے  
الصَّبَّ وَالطَّبِيَّ وَالذِّئْبَ وَالْجَذْعَ وَالذَّرَاعَ  
ان کے سوسمار اور ہرن اور بھیرے کو اور تنہ درخت اور بازو  
وَالْجَمَلَ وَالْجَبَلَ وَالْمَدْرَ وَالشَّجْرَ وَالْحَجْرَ  
اور اونٹ اور پہاڑ اور ڈھیلا اور درخت اور پتھر کو  
وَأَتْبَعْتَ مِنْ أَصَابِعِهِ الْمَاءَ الزَّلَالَ وَ  
اور لگا تو نے ان کی انگلیوں سے پانی مینچا اور

أَنْزَلْتَ مِنَ الْمَزْنِ بَدْعَوْتَهُ فِي عَامِ الْحَلِّ  
نازل کی تو نے ابرسفید سے ان کی دُعا سے بیچ سال تحوط  
وَالْجَدْبَ وَأَيْلَ الْغَيْثِ وَالْمَطْرَ فَأَعْشَوْشِبَ  
اور خشکی کے زوردار بارش اور مینھ پھر سری ہوئی  
مِنْهُ الْفَقْرُ وَالصَّخْرُ وَالْوَعْرُ وَالسَّهْلُ وَالرَّمْلُ  
اس سے سوکھی اور پتھری اور سخت زمین اور نرم زمین اور ریگستان  
وَالْحَجْرَ وَالْمَدْرَ وَأَسْرَيْتَ بِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسِيدِ  
اور پتھر اور ڈھیلا اور لے گیا تو ان کو ایک رات مسجد  
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا إِلَى السَّمَوَاتِ  
کعبہ سے مسجد اقصی تک پھر بلند آسمانوں تک  
الْعُلَى إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ  
پھر سدرۃ المنتہی تک پھر اس مقام تک کہ فرق دو گوشہ کمان کا  
أَوَادِنِي وَأَرَيْتَهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى وَأَتْلَتَهُ الْغَايَةَ  
یا اس سے کم تھا اور دکھائی تو نے لگو نشانی بڑی اور پہنچایا تو نے ان کو نہایت  
الْقَصْوَى وَالْكَرْمَتَهُ بِالْمُخَاطَبَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ  
مرتبہ اعلیٰ کو اور بزرگی دی تو نے ان کو ساتھ باتیں کرنے کے اور نگہبانی کے



وَالشَّافِهَةَ وَالشَّاهِدَةَ وَالْمُعَايِنَةَ بِالْبَصْرِ  
اور رُو ہوئے کے اور حضور میں جانے کے اور دیکھنے کے بینائی سے  
وَخَصَّصْتَهُ بِالْوَسِيلَةِ الْعُظْمَى وَالشَّفَاعَةَ  
اور خاص کیا تو نے اُن کو ساتھ دسینہ بزرگ کے اور سفارش  
الْكَبْرَى يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ فِي الْمَحْشَرِ  
بڑی کے دن خوف بڑے کے محشر میں اور  
جَمَعْتَ لَهُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَجَوَاهِرَ الْحِكْمِ  
جمع کیا تو نے واسطے اُن کے معنی خیز کلمات اور جواہر حکمتوں کے اور  
جَعَلْتَ أُمَّتَهُ خَيْرَ الْأُمَمِ وَغَفَرْتَ لَهُ مَا  
کیا تو نے اُن کی امت کو سب امتوں سے بہتر اور بخشتا تو نے اُن کی برائتوں  
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ الَّذِي بَلَغَ  
کو جو اُن سے ہو چکی ہو (کسی خاص زمانہ میں) اور جو اس کے بعد ہوئی ہو وہ کہ پہنچایا  
الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَشَفَّ  
انہوں نے احکام پیغمبری کو اور ادا کی امانت اور خیر خواہی کی امت کی اور دُور کیا  
الْغُمَّةَ وَجَلَى الظُّلْمَةَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
غم کو . اور روشن کیا تاریکی کو اور کوشش کی اللہ کے راستہ میں

وَعَبَدَ رَبَّهُ حَتَّى آتَاهُ الْيَقِينَ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ  
اور عبادت کی اپنے رب کی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی اسے اللہ بھیج اُن کو  
مَقَامًا مَحْمُودًا يُعْبَطُ فِيهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ  
مقام محمود میں کہ رشک کریں آپ پر اس میں پہلے اور پچھلے  
اللَّهُمَّ عَظِّمَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَعْلَى ذِكْرِهِ وَ  
اسے اللہ بڑھائی دے اُن کو دنیا میں ساتھ بلند کرنے ذکر اُن کے کے اور  
أَظْهَرِ دِينَهُ وَابْقَاءَ شَرِيعَتِهِ وَفِي الْآخِرَةِ  
ظاہر کرنے دین اُن کے کے اور باقی رکھنے شریعت اُن کی کے اور آخرت میں  
بِشَفَاعَتِهِ فِي أُمَّتِهِ وَأَجْرُ أَجْرِهِ وَمَثْوِيَّتِهِ  
ساتھ شفاعت اُن کی کے آپ کی امت میں اور عطا فرما اجر اور ثواب آپ کا  
وَأَبْدِ فَضْلَهُ لِلأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بِالْمَقَامِ  
اور ظاہر کر فضیلت آپ کی سب پہلوں اور پہنچلوں کے لئے مقام  
الْمَحْمُودِ وَتَقَدِّمِهِ عَلَى كَأَفَى الْمُتَقَدِّمِينَ  
محمود میں اور ساتھ مقدم کرنے اُن کے کے اور تمام مقبول حاضر  
بِالشُّهُودِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ الْكَبْرَى  
بارگاہ کے اسے اللہ قبول کر اُن کی بڑی شفاعت کو



وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ  
اور اونچا کران کے بلند درجہ کو اور عطا کران کو ان کے مطالب دنیا اور  
وَالْأُولَىٰ كَمَا آتَيْتَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ اللَّهُمَّ  
آخرت میں جیسا کہ دیا تو نے ابراہیم اور موسیٰ کو اسے اللہ  
اجْعَلْهُ مِنْ أَكْرَمِ عِبَادِكَ عَلَيْكَ شَرَفًا وَكَرَامَةً  
کر تو ان کو اپنے تمام بندوں میں سب سے بزرگ باعتبار بڑائی کے اور کرامت  
وَمِنْ أَسْرَفِهِمْ عِنْدَكَ دَرَجَةً وَأَعْظَمِهِمْ  
کے اور سب سے بلند اپنے نزدیک باعتبار درجہ کے اور سب سے بڑا باعتبار  
خَطْرًا وَأَمَكْنِهِمْ عِنْدَكَ شَفَاعَةً اللَّهُمَّ عَظْمُ  
قدر کے اور سب سے توانا نزدیک اپنے باعتبار شفاعت کے لے اللہ با عظمت  
بِرْهَانَهُ وَأَقْلِبْ حُجَّتَهُ وَأَبْلِغْهُ مَأْمُولَهُ فِي  
کر ان کی دلیل کو اور ظاہر کر ان کی دلیل نبوت کو اور پہنچا ان کو ان کی آرزو تک  
أَهْلِ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ اللَّهُمَّ اتَّبِعْهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ  
ان کے اہل بیت اور ان کی اولاد میں اسے اللہ پیچھے پہنچا تو ان کی اولاد سے  
وَأُمَّتِهِ مَا تَقَرَّبَ بِهِ عَيْنُهُ وَأَجْزَهُ عَنَّا خَيْرُ  
اور امت ان کی سے وہ نعمت کہ روشن ہو اس سے آنکھ ان کی اور بدلہ دے انکو

مَا جَزَيْتَ بِهِ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ وَأَجْرَ الْأَنْبِيَاءِ  
ہم سے بہت اچھا اس سے کہ دیا تو نے کسی نبی کو ان کی امت سے اور بدلہ دے تو سب  
كُلِّهِمْ خَيْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا  
نبیوں کو اچھا اے اللہ درود و سلام بھیج اور سردار ہمارے  
مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا شَاهَدَتْهُ الْأَبْصَارُ وَسَمِعَتْهُ  
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بشمار اس کے کہ دیکھیں اس کو بینائیاں اور سنیں اس کو کان  
الْأَذَانُ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ صَلَّى  
اور درود اور سلام بھیج اوپر ان کے بشمار ان کے کہ درود  
عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ  
بھیجیں ان پر اور درود و سلام بھیج اوپر ان کے بشمار ان کے کہ درود نہ  
يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا تُحِبُّ  
بھیجیں ان پر اور درود اور سلام بھیج اوپر ان کے جیسا کہ چاہے تو  
وَتَرْضَىٰ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ  
اور رضا ہو تیری اس میں کہ درود بھیجا جاوے ان پر اور درود اور سلام بھیج اوپر  
كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ  
ان کے جیسا کہ حکم کیا تو نے کہ درود بھیجیں ہم اوپر ان کے اور درود و سلام بھیج



عَلَيْهِ كَمَا يَتَّبِعِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ  
ان پر جیسا کہ سزاوار ہے یہ کہ درود بھیجا جاوے اُن پر اے اللہ  
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ نَعْمَاءِ  
درود اور سلام بھیج ان پر اور ان کی اولاد پر بشمار نعمتوں اللہ  
اللَّهُ تَعَالَىٰ وَأَفْضَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ  
تعالیٰ کے اور افزائشوں اس کی کے اے اللہ درود اور سلام بھیج ان پر  
وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ  
اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر اور ان کی اولاد پر اور ان کی بیویوں  
وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِثْرَتِهِ وَعَشِيرَتِهِ  
پر اور ان کی اولاد پر اور ان کے گھر کے لوگوں اور ان کے رشتہ دار اور قبیلہ اولاد  
وَأَصْهَارِهِ وَأَخْتَانِهِ وَأَحْبَابِهِ وَاتَّبَاعِهِ وَ  
پر اور آپ کے خسران پر اور دامادوں پر اور ان کے دوستوں پر اور ان کے  
أَشْيَاعِهِ وَأَنْصَارِهِ خَزَنَةَ أَسْرَارِهِ وَمَعَادِنَ  
پیروؤں پر اور ان کے گروہ اور ان کے دوکانوں پر جو نگہبان ہے اُن کے عہدوں کے  
أَنْوَارِهِ كُنُوزِ الْحَقَائِقِ وَهُدَاةَ الْخَلَائِقِ وَمَجْمُومَ  
اور کائیں ہیں اُن کے انوار کی خزانے حقیقتوں کے اور راہنما مخلوقات کے اور سانسے

الْأَهْتِدَاءِ لِمَنْ اقْتَدَىٰ بِهِمْ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا  
ہدایت کے واسطے اس کے جو اُن کی پیروی کرے اور سلام بھیج بہت بہت  
كَثِيرًا دَائِمًا أَبَدًا وَأَرْضَ عَنْ كُلِّ الصَّحَابَةِ  
سلام دائمی ہمیشہ اور راضی ہو تمام صحابہ سے  
رَضَىٰ سَرْمَدًا عَدَدَ خَلْقِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ  
رضامندی دائمی بشمار خلق اپنی کے اور موافق وزن عرش اپنے  
وَرِضَانِ نَفْسِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ  
کے اور خوشی ذات اپنی کے اور موافق انداز سیاہی کلمات اپنے کے جب تک کوئی  
ذَكَرَكَ وَكُلَّمَا سَهَىٰ عَنْ ذِكْرِكَ غَافِلٌ صَلَوَةٌ  
ذکر کرے جو الہ آپ کا ذکر کرے اور جب تک کوئی غافل آپ کا ذکر نہ کرے وہ درود  
تَكُونُ لَكَ رِضَىٰ وَحَقِيقَةً أَدَاءٌ وَلِنَاصِلًا  
جو سبب ہو آپ کی رضامندی کا اور اُن کے حق کی ادائیگی کا اور ہمارے لیے  
وَأَتِيَهُ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ  
مصلحتی کا اور سے اُن کو مقام وسیلہ کا اور فضیلت کا اور مرتبہ بلند و  
الرَّفِيعَةَ وَأَبْعَثَهُ الْقَامَ الْمَحْمُودَ وَاللَّوَاءَ السُّعْفُودَ  
برتر اور عطا کر اُن کو مقام محمود اور نشان بستر



وَالْحَوْضُ الْمُرْوَدُ وَصَلِّ يَا رَبِّ عَلَى جَمِيعِ  
اور حوض کوثر وارد ہوگی امت اس پر اور رحمت بھیج اسے اللہ اوپر سب  
إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ  
بھائیوں ان کے کے نبیوں اور پیغمبروں اور ولیوں  
وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ وَمَلَائِكَتِكَ  
اور نیکیوں اور شہیدوں اور صدیقوں اور اپنے ملائکہ  
الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى سَيِّدِنَا الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الدِّينِ أَبِي  
مقربین میں سے اور اوپر سردار ہمارے شیخ محمد الدین ابو  
مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ الْبَكِيِّ الْإِمِينِ صَلَوَاتُ  
محمد عبد القادر جیلانی کے جو صاحب مرتبہ اور حامل امانت ہیں زمین  
اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى  
اللہ کی ان سب پر اسے اللہ درود اور سلام بھیج اوپر  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّالِفِينَ  
سردار ہمارے محمد کے اور اوپر اولاد سردار ہمارے محمد کے کہ پہلے سے  
لِلْخَلْقِ نُورَةَ الرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِينَ ظَهْرَةَ عَدَدِ  
سب خلقت سے نور ان کا رحمت ہے واسطے جہانوں کے ظہور ان کا موافق

مَا مَضَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَا بَقِيَ وَمَنْ سَعِدَ  
عدد کے اس مخلوق کے جو گذر چکی اور جو باقی ہے اور جو نیک بخت ہیں  
مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلَوةٌ تَسْتَعْرِقُ الْعَدَا  
ان میں سے اور جو بد بخت ہیں ایسی رحمت جو شمار سے باہر ہو  
وَيَحِيطُ بِالْحَدِّ صَلَوةٌ لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا انْتِهَاءَ  
اور متجاوز ہو حد سے وہ رحمت کہ نہ حد ہو اس کی اور نہ نہایت  
وَلَا أَمَدَ لَهَا وَلَا انْقِضَاءَ صَلَوةٌ الَّتِي  
اور نہ اغازہ اس کا اور نہ تمامی اس کی وہ درود اپنا کہ بھیجا تو نے  
صَلَّيْتَ عَلَيْهِ صَلَوةٌ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْهِ  
اور ان کے ایسا درود کہ پیش کیا گیا اور ان کے  
مَقْبُولَةٌ لَدَيْهِ مَحْبُوبَةٌ إِلَيْهِ صَلَوةٌ دَائِمَةٌ  
قبول کیا گیا نزدیک ان کے محبوب ان کو درود ہمیشہ رہنے والا  
يَدَاؤِمِكَ يَا قَبِيَّةُ بِبِقَابِكَ لَا مُنْتَهَى لَهَا دُونَ  
ساتھ ہمیشگی تیری کے اور باقی ساتھ بقا تیری کے نہ انتہا اس کی جو بجز  
عَلَيْكَ صَلَوةٌ تَرْضِيكَ وَتَرْضِيهِ وَتَرْضَى  
علم تیرے کے ایسا درود کہ خوش کرے تجھ کو اور پسند کرے تو اسکو اور خوش ہو تو

بِهَاءَنَا صَلَوَةٌ تَنَالُ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ مَقَامِ سَجْدَةٍ

بِسَبَبِ اس کے ہم سے ایسا درود کہ بھر سے زمین اور آسمان کو باقی عبارت نقل نامک

أَوَّلِ صَلَوَةٍ تَسْتَجِيبُ بِهَا دُعَائُنَا وَتُرْكِي بِهَا

سجود میں پڑھی ایسا درود کہ قبول کرے تو بسبب اس کے دعا ہماری اور پاک کرے تو

نَفْسُنَا وَتُحْيِي بِهَا قُلُوبَنَا وَتُحِلُّ بِهَا الْعُقَدَ وَ

بسبب اس کے ہماری جانیں اور زندہ کرے بسبب اس کے دل ہمارے اور کھولے بسبب

تُفْرِجُ بِهَا الْكُرْبَ مَقَامِ سَجْدَةٍ دَوْمٍ وَيَجْرِي بِهَا لَطْفُكَ

اسکے گریں اور ڈورا کرے تو اس سے سختیوں کو اور جاری ہو بسبب اس کے

فِي أَمْرِي وَأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ مَقَامِ سَجْدَةٍ سَوْمٍ وَبَارِكْ

میرا بانی تیری میرے کام میں اور کاموں میں سب مسلمانوں کے اور برکت دے

لَنَا عَلَى الدِّوَامِ وَعَافِنَا وَاهْدِنَا وَامْدُدْنَا

تو ہمیں اوپر ہمیشگی کے اور بچا تو ہمیں اور راہ بتا ہم کو اور مدد سے ہم کو

وَاجْعَلْنَا آمِنِينَ وَيَسِّرْ لَنَا أُمُورَنَا مَعَ الرَّاحَةِ

اور کر ہم کو بے خوف اور آسان کر دے ہمارے لئے ہمارے کام ساتھ آرام

لِقُلُوبِنَا وَأَبْدَانِنَا وَالسَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ فِي

کے واسطے دلوں ہمارے کے اور بدنوں ہمارے کے اور ساتھ سلامتی اور عافیت کے

دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَأَخْرَتِنَا وَتَوْفِقَنَا عَلَى الْكِتَابِ

ہمارے دین اور ہماری دنیا اور ہماری آخرت میں اور وفات دے ہم کو اور قرآن

وَالسُّنَّةِ وَاجْمَعْنَا مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ

اور طریقہ پیغمبر کے اور ہم کو اس کے ساتھ جنت میں بغیر عذاب کے کہ درجوں جنت

عَذَابٍ يَسْبِقُ بِنَا وَأَنْتَ رَاضٍ عَنَّا غَيْرِ

سے پہلے ہو در آں حالیکہ تو خوش ہو ہم سے نہ

غَضَبَانَ وَلَا تَتَكَبَّرْ بِنَا وَاخْتِمْ لَنَا مِنْكَ

ناراض اور نہ آزمانا ہمیں اور خاتمہ کر ہمارا اپنی طرف

بِخَيْرٍ وَعَافِيَةٍ بِلَا مِحْنَةٍ اجْمَعِينَ سُبْحَانَ

ساتھ بہتری اور عافیت کے بغیر محنت کے سب کا پائی سے یاد کرتا

رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ

ہوں پروردگار کو پروردگار بزرگی کا اس سے جو بیان کرتے ہیں مشرک اور سلامتی

عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اوپر پیغمبروں کے اور سب تعریف اللہ کو جو پائے والا جہانوں کے ہے

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

تیری رحمت سے اسے زیادہ رحم کر دے رحمت کرنے والوں سے

**Get more e-books from [www.ketabton.com](http://www.ketabton.com)  
Ketabton.com: The Digital Library**